

جدید عربی لغت

اور
عربی بول چال کے نمونے

افریقہ اور عرب ممالک کے عازمیرضے کے لئے

پاک مسلم اکادمی
افضل مارکیٹ، اردو بازار، لاہور

۴
ج -

زندگی کے مختلف شعبوں میں
عرب اور افریقی ممالک میں جاننے والوں کے لئے

جدید عربی لغت

اور

عربی بول چال کے نمونے

(از)

حافظ نذرا احمد

پرنسپل عربی نخط و کتابت سکول

پاک مسلم اکادمی

سراپنج روپیہ

۶۱۹۸۶



پہلے یہ صفحہ پڑھ لیجئے

- پچاس کے قریب عنوانات کے تحت ہم نے مختلف علوم و فنون کے لفظ درج کیے ہیں۔ ایک لفظ مختلف عنوانات کے تحت آسکتا ہے (مثلاً ڈراما، میوزک، ڈانس، مکھی، مشین، انجن) ظاہر ہے ہم نے ہر لفظ کسی ایک جگہ ہی لکھا ہوگا، لہذا کوئی ایسا لفظ ایک جگہ نہ ملے تو دوسرے عنوان کے تحت تلاش کر لینا چاہیے۔
- مختلف عنوانات کے تحت درج شدہ الفاظ بھی اگرچہ حروف ابجد کی ترتیب سے دوبارہ لکھ دیئے گئے ہیں لیکن بعض الفاظ کو غیر اہم سمجھ کر ترک کر دیا گیا ہے، لہذا صرف لغت پر اکتفا نہ کیا جائے۔
- دوسری زبانوں کی طرح اردو میں بھی ایک شے کے لئے متعدد الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ لہذا اگر کسی ایسے اردو لفظ کی عربی نہ ملے تو اس کے مرادف لفظ کے مقابل دیکھ لیں۔
- عوامی بولی ہر ملک بلکہ ہر شہر کی مختلف ہوتی ہے۔ ہم نے کوئی ایک معروف لفظ اور املا اختیار کیا ہے، اس سے پریشان خاطر نہ ہوں۔
- واحد اسماء کی جمع خطوط و حرانی میں دی گئی ہے۔
- یہ فیہد صرف ایک لغت یا فرہنگ نہیں بلکہ عربی خط و کتابت کو پس کا ایک حصہ ہے، اس لئے اس میں جا بجا عربی کلمات کے نمونے دیئے گئے ہیں۔

لکھنے کے بعد اسے عوامی بولی سے بھی جو کسی حد تک عربی فصیح کے مسئلہ تو اہد و ملفوظ ہے۔

حرفِ آغاز

الحمد للہ، پیارے نبیؐ کی پیاری زبانِ عربی خط و کتابت کو رس کو خواتین و حضرات، دونوں میں، یکساں طور پر قبولِ عام حاصل ہوا ہر شعبہ حیات کے افراد ملت نے نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرونِ پاکستان سے اسباق طلب کئے۔ پانچ ماہ کی قلیل مدت میں کثیر تعداد نے کورس مکمل کر لیا، اور امتحان میں کامیابی کے بعد سند حاصل کر لی۔ ہمارے لئے یہ امر سرمایہ سعادت ہے کہ اپنی نوعیت کا یہ پہلا تجربہ کامیاب رہا۔

وصول ہونے والے خطوط سے ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ کورس طلب کرنے والوں کی تقریباً نصف تعداد کو جدید عربی کی بطور خاص ضرورت ہے۔ کیونکہ جس شعبہ میں کام کرنے کے لئے وہ افریقی یا عرب ممالک میں جا رہے ہیں اس شعبہ کی مصطلحات اور فنی زبان کا جاننا ان کے لئے ازسبب ضروری ہے۔ اس صورتِ حال کے پیش نظر اس جدید عربی لغت کی اشاعت ضروری ہو گئی۔

مختلف علوم و فنون کی مصطلحات، ایجادات اور جدید عربی الفاظ جمع کرنا آسان کام نہ تھا۔ پھر اس پورے ذخیرہ کو اردو عربی لغت کی صورت میں بترتیب حروفِ ابجد منسلق کرنے کا مسئلہ تھا۔ بہ طور توفیق الہی سے یہ مرحلہ بھی آسان ہو گیا اور ہم اپنے وطن کی خدمت میں یہ ارمغان پیش کرنے کے قابل ہو گئے۔

معنی، تلفیح کے باوصف اس مختصر سے مجموعہ میں اغلاط اور فرورگذاشتوں کا ہونا خارج از امکان نہیں۔ وہ باب علم جن اغلاط کی نشاندہی ہو رہی ہے اور طلبہ اس خطہ کو مہربانہ نظر سے دیکھیں گے جو مشورے دیں گے انشاء اللہ دوسری اشاعت میں بعد شکر یہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔

حافظ نذیر احمد

نذر منزل، محمد نگر، لاہور

۷ شعبان ۱۴۰۲ھ، ۳۱ مئی ۱۹۸۲ء

اس کتاب میں کیا ہے؟

①

ہر پیشہ و فن کے عربی الفاظ

ہر عنوان کے تحت الفاظ جُدا جُدا

②

عربی بول چال کے نمونے

سفر اور ضروریات سفر

دفتری زبان

پاسپورٹ اور ویزا کے الفاظ

فوج کے متعلق

تجارت اور بینک

انجینیری و ڈاکٹری

اعضائے جسمانی

سکول، کالج، یونیورسٹی

سینما، ٹیلیوژن، فوٹو

انسانی رشتے

کھانے پینے کی اشیاء

ضروریات زندگی

زندگی کے شب و روز

ضروریات خط و کتابت

ہوٹل میں کھانے کے لیے

سپاہی سے راستہ معلوم کرنا

تار گھر میں نمونہ گفتگو

پاسپورٹ، ویزا کے دفتر میں

جہاز میں ایئر ہوسٹس سے

کسٹم کلرک سے

بازار میں دکاندار سے

ڈاکٹر سے بیماری کا حال

درگاہ میں داخلہ کے لیے

③

جامع مختصر
جدید

اردو عربی لغت

د حروف ابجد کی

ترتیب سے

مندرجات

(۱)

صفحہ	صفحہ	صفحہ	صفحہ
۳۸	۲۰	۷	۷
علاج و معالجہ	۲۲	فرجی اصطلاحات	ریل گاڑی
طبی اصطلاحات	۲۴	تجارت و بنکاری	ٹور ٹرمار وغیرہ
نمونہ گفتگو	۲۴	تجارت	فریج اور سیوریات
۳۹	۲۴	نمونہ گفتگو	ساہن سفر
اعضائے جسمانی	۲۸	بنک	پوسٹ
تعلیم و تعلم	۳۰	اوزان	نمونہ گفتگو
تعلیم و تعلقات	۳۰	پیمانے	ٹریفک کے نشانات
مختلف تعلیمی	۳۰	سکے	سرکاری دفاتر
درسگاہیں	۳۰	ملشے اور عہدے	ڈاک خانہ
۲۳	۳۰	انجیر، کینک وغیرہ کے لٹ	مارگر
تعلیم و تعلقات	۳۲	فنی عہدے	ٹیلیفون
نمونہ گفتگو	۳۲	بجلی	نمونہ گفتگو
مختلف کھیلیں	۳۲	مشینری	پاسپورٹ
۲۶	۳۲	بڑھی وغیرہ	ویزہ
نوٹ، سینما، ٹیلیوژن	۳۲	ڈاکٹروں کے مختلف اوزار	نمونہ گفتگو
غیرہ	۳۴	ہسپتال	سفارت خانہ
۲۸	۳۴		
رشتے اور رشتے داریاں	۳۶		
۵۰	۳۶		
اشیلے خورد نوش			

۹	خط و کتابت	صفحہ ۴۲	۵۱	دریا، سمندر، اور	۵۱	اجناس اور پھول پھل
	(۲)		۵۳	معدنیات	۵۳	عادات و خصائل
	معجم	۴۳	۵۵	رات، دی، اور	۵۵	لباس، زیور، عطریات وغیرہ
			۵۷	ماہ و سال	۵۷	مختلف رنگ
		۶۴	۵۷	حیوانات	۵۷	مکان اور فرنیچر
۲۰	کامل عربی کلاس		۵۸	متفرقات	۵۸	ملاقات اور رخصت
	اور دوسرے الفاظ کی		۵۹		۵۹	سہراہ ایک ملاقات
	فرہنگ بترتیب حروف	۶۶		سدالیہ حروف اور اسانے		کائنات
	ابجد		۶۰	اشارہ	۶۰	زمین، آسمان اور
	صفحہ ۲۲ تا ۷۰	۶۷		ضروری الفاظ اور جملے		مظاہر قدرت

مختلف عنوانات کے تحت

فرن اور پیشہ کے متعلق جدید عربی الفاظ اور گفتگو کے نمونے

سفر اور ذریعہ سفر

(ہوائی جہاز - ریل گاڑی - موٹر سائیکل سفر ہوٹل وغیرہ)

مقصد	سیٹ (بیٹھنے کے لئے)	ہوائی جہاز	ہوائی جہاز
مَقْعَدٌ لِلنَّوْمِ	برقعہ (سوئے کے لئے)	طَيَّارَةٌ - طَائِرَةٌ	ہوائی جہاز
حَجْرٌ	ریزرویشن	مَطَارٌ	ہوائی جہاز کا ڈوہ
تَذْكِرَةٌ	ٹکٹ	طَيَّارٌ	پائلٹ
عَرَبِيَّةٌ (عرب بیلہ)	ریل گاڑی	بِدُونِ تَوَقُّفٍ	نان سٹاپ
حَنَطُوسٌ		مَقْعَدٌ	سیٹ
قَاطِرَةٌ - وَالْبُوسُ	ریل کا انجن		(بیٹھنے کے لئے)
سَوَاقٌ (سواگ)	ڈرائیور	تَذْكِرَةٌ	ٹکٹ
خَاصٌّ قِطَارٌ -	ریل گاڑی	مَدْمَاجٌ	رن وس
مُحَافِظَةُ الْقِطَارِ			
مُجَوَّلَةٌ	ریل تینچی		
مُجَوَّلٌ - مُجَوَّلِيٌّ	کانٹے والا		
أَذِنٌ - إِشَارَةٌ	سگنی		
مَكْوَحَةٌ			
		رَیْلٌ گَارِیٌّ	ریل گاڑی
		رَیْلُ سَ إِشِیْنِ	ریلوے اسٹیشن
		قِطَارٌ	
		مَحَطَّةٌ	
		مَحَطَّةُ الْقِطَارِ	

ریل گاڑی

تفہیم لغت عربیہ

دلیل ترجمان -
 سرائد
 نزلہ بطلویہ
 نزلہ
 ساج
 عسکری مرد
 صلاحی
 مشفق - دارالانشاء
 معترض
 اشار
 تفتال
 مومیا
 حیرت دخول
 استراخل
 مانی لینی
 خلقہ الرقص
 حدیقہ مشرق

رہنما (گائد)
 پینک (سیرتفریح)
 تفریح
 سیاح
 ٹریفک کا سپاہی
 کھیل کود
 عجاب گھر
 نمائش
 اشار قدیمہ
 جحتمہ
 مہمی
 فیس داخلہ
 وقفہ
 ٹائٹ کلب
 ناچ گھر
 پارک

تحویلہ
 سکہ الحدید
 قضیب
 انخطار

موٹر کار وغیرہ

سیارۃ
 اٹومبیل - اٹومبیل
 موقوف
 سیارۃ اجراء - تاکسی
 خصوصی
 سواک (سواک)
 اجراء - کما
 حافظہ - پاس
 باصہ - سیارۃ کیڈ
 موقوف حافظہ
 (موقوف پاس)
 محطہ اٹومبیل
 زیت بنزین - نبط

ریوے کالان
 ریوے لائن
 خطرہ (دازنگ)

موٹر
 مٹی بس
 مڑوں کا اڈہ
 ٹیکسی
 پرائیویٹ کار
 ڈرائیور
 کرایہ
 بس
 بس سٹاپ
 پٹرول

مَرَكَبُ شَرَاغِي	بادبانی کشتی	الْحَدِيْقَةُ الْعَامَّةُ	پبلک پارک
سَفِيْنِيَه	کشتی	لِكْسِي جَال	مردوں کے لئے
اِحْتِسَابُ النَّشَاتِيْنِ	جیب کتروں سے پوشیاد	لِلْمَسِيْدَاتِ	خواتین کے لئے
ہوش		مَشْهَدٌ وَمَشَاهِدُ	منظر (مناظر)
فَنْدُقْ - خَان	ہوش	كشَالٌ (شَلَالَاتُ)	آبشار

سامان سفر

مَطْعَم	ریسٹورنٹ	فِرَاش	بستر
عُرْفَه	کمرہ	عَفْشٌ	سامان
كِرَا - اَجْرَه	کرایہ	صَنْدُوقٌ صِيَوَانٌ	بکس
شَاغِي	چائے	اِحْقِيْبِيَه (خَفَائِبُ)	ہینڈ بیگ
شَاغِي يَا اَحْلِيْبِ	دودھ والی چائے	شَنْطَه	
قَهْوَه - كَهْوَه	قہوہ	خَفِيْبَه صَغِيْرَه	چھوٹا بیگ (تھیلا)
شَاغِي اَخْصَرًا	سبز چائے	بَحْرَاب	بستر بند
فِجَان - كُوْب	پیالی	جَعْبِيَه	(ہولڈال)
زُهْلَبَه - قِرَاذَه	بوتلی	حَمَال	مزدور
مَشْرُوْب	مشروب	اَجْرَه	مزدوری
مَشْرُوْب بَارِد	ٹھنڈا مشروب	شَاغِي	شکر (راستہ)
مَشْرُوْب حَار	گرم مشروب	دَثْرَا جَه	سائیکل
عُرْفَه مَقْرُوْشَه	کمرہ فرنیچر سمیت		

ہوٹل میں — فی المَطْعَم

السلام علیکم

وعلیکم السلام اہلاً و سہلاً -

لَفَضْل

عَفْواً

مَاذَا تُرِيدُ؟ مَشْرُوبٌ بَارِدٌ أَمْ شَايٌ؟

فَأَنْتَا أَمْ كَاكُو كُوْلَا

ز جاجہ بیسی حاضر

أُرِيدُ مَكْبَابَةَ مَاءٍ وَ فُتْجَانَ

شای

أَيُّ شَيْءٍ أُخِرُ

لَا شَيْءٌ أُخِرُ - شُكْرًا

كَمْ أَذْفَعُ؟ كَمْ الْفَالُوسَةَ؟

بِرِيَالَيْنِ فَقَطْ

مسافر: السلام علیکم

بہرہ: وعلیکم السلام -

تشریف رکھئے۔ نوش آئید

مسافر: شکریہ (جوابی)

بہرہ: کیا چاہئے؟ ٹھنڈا یا چائے

مسافر: فیٹا یا کوا کولا

بہرہ: پیسی کولا موجود ہے

مسافر: میں ایک گلاس پانی اور چائے

کا ایک کپ چاہتا ہوں

بہرہ: کچھ اور جناب؟

مسافر: اور کچھ نہیں۔ شکریہ

بل کس قدر ہے؟

بہرہ: دو ریال صرف



ٹریفک کے بین الاقوامی نشانات

مَشْنُوعُ اَلْوُقُوفِ



مَشْنُوعُ اَلشَّرْحِينِ
مَشْنُوعُ لَدَّ خَوْلِ



دَخُولِ مَبَاحِ

اِتِّجَاهِ وَاِجْدِ
مَشْنُوعُ اَلْبَقْشِيشِ
خَطِّ

مَحْذِيرِ - اِنْتِبَهِ

اَلنَّازِمِ اَلْيَسَامِ

اَلنَّزِمِ اَلْيَمِينِ

طَرِيقِ مَسْدُودِ

یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں

یہاں سگریٹ نوشی کی اجازت نہیں
یہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں

افد آنے کی اجازت ہے

یک طرفہ راستہ
بخشیش دینا منع ہے

خطرہ

ہوشیار

بائیں طرف چلو

دائیں سمت چلو

راستہ بند ہے

هَدِي السَّرْعَه

زيادة السَّرْعَه

اِحْتِرَاسِ النَّشَالِيْنِ

مُنْعَطَفِ يَمِيْنِي

مُنْعَطَفِ يَسَارِ

مُنْعَطَقَانِ اِلَى الْيَمِيْنِ

قَفْ

اِحْتِجَاهِ وَاِحْدِ

مَعْرُودِ وَجِهَةٍ وَاِحْدَةٍ

مَعْرُودِ وَجِهَتَيْنِ

مَعْرُودِ لِلاَطْفَالِ

مَضْعَدِ خَطْرِ

مُنْخَفَضِ خَطْرِ

مَفَارِقِ طَرِيقِ

طَرِيقِ مُتَعَبِي

مَكَانِ الْاِنتِظَارِ

مَمْنُوعِ الْاِنتِظَارِ

مَمْنُوعِ الْاَلَةِ التَّنْبِيْهِ

رفقار آہستہ

رفقار تیز

جیب کتروں سے ہوشیار

دھایاں موڑ

بایاں موڑ

دائیں سمت دو موڑ

ٹھہر جاؤ

یک طرفہ راستہ

دونوں سمت راستہ

بچھل کے لئے راستہ

خطرناک چڑھائی

خطرناک ڈھلوان

گراس روڈ

خطرناک موڑ

پارکنگ

یہاں پارکنگ نہیں

ہارن نہ بجائیں



ڈاک، تار، ٹیلیفون

ڈاک خانہ

دُعا (دعاگ)	کافہ	بیرید	ڈاک
قبر طاس		مکتبہ البرید	ڈاک خانہ
بیرید مستعمل	ایکسپریس لیٹر	طابع (جمع طوابع)	ڈاک ٹکٹ
ظرف	لغافہ	ساعی البرید	ڈاکیہ
ظرد	پارسل	مامور الطوابع	ٹکٹ بابو
مواد مطبوعہ	بک پوسٹ	بیرید جوی	ہوائی ڈاک
مطبوعات		طوابع	ہوائی ڈاک کے
صندوق البرید	پوسٹ بکس	بلیٹریڈ الجوی	ٹکٹ
(ص. ب)		بالطاس	ہوائی ڈاک سے
رقم صندوق البرید	پوسٹ بکس نمبر	بلیٹریڈ الجوی	
(ص. ب نمبر)		سجیل	رجسٹرڈ ڈاک
حوالہ معالیہ بالبر	منی آرڈر	سجیل	رجسٹریشن
محوّل	منی آرڈر بھجیے والا	کتاب مکتوب	رجسٹر
محوّل علیہ	منی آرڈر پانے والا	رسالہ خطاب	خط
استثمارہ منالیہ	منی آرڈر فارم		
بلیٹریڈ			
نادر مکتبہ البرید	پوسٹ ماسٹر		

مہر
مہر شدہ
پیشل آرڈر

مَنَسْم
مَحْتَموم
اِذْنِ بَرِيد

ٹیلیفون

تَلْفُون } ٹیلیفون
هَاتِف }
مَسْر }

مَرَقَم هَاتِف } ٹیلیفون نمبر
نَمْرَقَم تَلْفُون }

بَدَّالَة } ٹیلیفون کیسٹ
التَلْفُون }

مِرْاَوَل } ٹیلیفون کا
دَآءِل }

تارگھر

بَرْقِيَه - اِسْمَارَه } تار
لَبْرَقِيَه - تَلْغِرَاف }
مَلَكْتِبِ التَّلْغِرَافَات } تارگھر
مَوْظِنِ بَرْقِيَات } تار بالو
فَسَاقِ بَرْقِيَه } تار کا فارم
اِسْتِمَارَه تَلْغِرَاف }

راستہ دریافت کرنے کے لیے - نمونہ گفتگو

اجنبی ایک سپاہی سے — لاجل غریب للمشرطی

سَيِّدِي اَيْنَ مَلَكْتِبِ اِتْلَغِرَافِ
اِذْهَبْ مُسْتَقِيْمًا رِدْعَرِي
اَلْضَّرْفِ اِلَى اَلْيَمِيْنِ فِي الْمَفْرَقِ
بَعْدَ عَشْرِ حَطَوَاتٍ اِلَى اَلْيَسَارِ

اجنبی: جناب تارگھر کہاں ہے؟
سپاہی: سیدھے جائیں
چوک میں دائیں طرف مڑ جائیں
دس قدم بائیں سمت ہے

اجنبی: تارگھر کھلنے کے اوقات کیا ہیں؟
 سیاہی: طلوع آفتاب سے غروب آفتاب
 صبح سے شام تک
 اجنبی: شکر یہ - جہربانی
 سیاہی: کوئی بات نہیں۔ خدا حافظ

تارگھر میں نمونہ گفتگو

اجنبی تارباہو سے —————
 الْغَرِيبُ لِلْمُوْتَفِّ بِالْتَلْغِزِافِ

اجنبی: تجھے تار فارم دیجئے
 تارباہو: فارم کی ضرورت نہیں
 سادہ کاغذ پر لکھ دیں
 اجنبی: لاہور کے لئے تار لیجئے
 تارباہو: لاہور کہاں ہے؟
 اجنبی: پاکستان میں
 تارباہو: بہت خوب

اَعْطِنِي اِسْمًا رَآةَ الْبَرَقِيَّةِ
 لَا اَلِيَوْمَ بِاِلَّا سَمَامَا رَآةَ
 اَكْتَبْ عَلَيَّ اَلْقِرْطَاسِ التَّقِيَّ
 خُذْ بَرَقِيَّةَ اِلَى لَاهُوسِ
 اَيْنَ لَاهُوسِ
 فِي الْبَلَدِ بِاِكْتَانَ
 طَيِّبُ
 رُذْهَبَ بِهَا اِلَى الشَّابِّكَ التَّشَانِي
 اَنَا اَخُذُ اَلْبَرَقِيَّاتِ اَلْمَحَلِّيَّةِ
 كَمْ اُجْرَةَ هَذِهِ الْبَرَقِيَّةِ
 مِنْ فَضْلِكَ

اسے دوسری کھڑکی پر لے جائیں
 میں مقامی تار لیتا ہوں
 اجنبی: اس تار کی فیس کیا ہوگی؟
 تارباہو: جہربانی فرما کر

اَلْكَتُبُ الْعُثُوَانِ وَ اِضْحَا
 وَ اَلْكَتُبُ اِسْمَكَ كَحَتُّ
 اَنْظُرْ - اَلَا نَ هَذَا صَحِيحٌ
 صَحِيحٌ كَامِلًا
 اِذْ قَدْ حَمَسَتْ وَّ عَشْرِيْنَ سِرِّيَا
 مَتَى تَصِلُ الْبُرْقِيَّةُ
 سَرِيْعًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ
 سُبْحٰنًا
 عَفْوًا

پتہ صاف لکھ دیں
 اور نیچے اپنا نام بھی لکھیں
 اجنبی: دیکھیے۔ اب صحیح ہے
 تمارا بلو: بالکل درست
 پچیس ریال دے دیں
 اجنبی: تارکب جائے گا
 تمارا بلو: جلد ہی۔ انشاء اللہ
 اجنبی: شکریہ
 تمارا بلو: شکریہ

پاسپورٹ، ویزا، سفارت خانہ

اسم الوالد	باپ کا نام	جواز یا شیشو	پاسپورٹ
اسم التزوج	خاندان/بوی کا نام	جواز السفر	دفتر پاسپورٹ
مرا فقون	(دوسرے) ساتھی	مکتب الجوازات	پاسپورٹ فارم
ديانة	مذہب	استمارة الجواز	
جنسيه	قومیت		
مكته	پیشہ		
مكان الولادة	مقام پیدائش		
تاريخ الولادة	تاریخ پیدائش		
		اسم	نام
		رقم - نمبر	نمبر

پاسپورٹ کے اندراجات

مدیر	ڈائریکٹر	مُتَوَلِّی	سکنہ
المدیر العام	ڈائریکٹر جنرل	قَامَة	قد
المدیر المساعد	اسسٹنٹ ڈائریکٹر	قَدَم	فٹ
وہنا کے سرروہات		بُوصَة	انچ
تاشیراۃ	ویزہ	هَشْر	میٹر
من	از (سے)	لَوْنِ الْعِیُونِ	آنکھوں کا رنگ
الی	تا (تک)	صُورَة	تصویر
مُدَّة الْاِحْلَامِہ	مدت قیام	لَوْنِ الشَّعْرِ	بالوں کا رنگ
رقم نمبرہ	نمبر	الْعَلَامَاتِ الْمُمْتَرَة	استیازی نشان
مکتب التاشیرات	وہنا آفس	اِمْضَاءُ تَوْقِيعِ	دستخط
العقد الفعیه	زیر مبادلہ	جِنْف	صنف
بطاقة	کارڈ	(رَكْو / اَنْثَى)	{ مرد یا عورت
بطاقة تسمییل	چہرہ لشن کارڈ	حَدِيد	توسیع
ذخول	آمد داخلہ	تَجْدِيد	تجدید
خروج	واپسی	مَكَانُ الْاَصْدَاةِ	مقام اجراء
دولة	ملک	تَالِیخ	مورخہ
بلد (جمع بلاد)		عَنْوَان	پتہ
		عَنْوَانُ الدَّائِمِہ	مستقل پتہ
		عَنْوَانُ مَوْقِيتِہ	عارضی پتہ

عَقْدٌ تَوَقُّعٌ	معادہ (کنٹریکٹ) دستخط	مَثَلَةٌ جُمْهُورِيَّةٌ	بادشاہت جمہوریت
---------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------

(نمونہ گفتگو)

دفتر پاسپورٹ - مکتب الجوازات

لحمداً بلفراش
أَيْنَ عُرْفَةَ الْمَدِينِ ؟
مَاذَا تُرِيدُ يَا اخِي !
أَلْبغى اسْتِمَارَةً الْجَوَازِ
أَلَيْسَ عِنْدَكَ الْجَوَازُ ؟
عِنْدِي الْجَوَازُ الدَّوْلِيَّ
أُرِيدُ أَنْ أَضِيفَ إِلَيْهِ
اسْمَ وَلَدٍ آخَرَ
أَطْلُبُ مِنْ ذَلِكَ الشَّبَابِ

احمد چیراسی سے
احمد: ڈائریکٹر کا کمرہ کہاں ہے؟
چیراسی: آپ کو کیا کام ہے؟ بھائی!
احمد: مجھے ایک پاسپورٹ فارم درکار ہے
چیراسی: کیا آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں؟
احمد: میرے پاس انٹرنیشنل پاسپورٹ ہے
بچہ کا اضافہ کرانا ہے
چیراسی: اس کھڑکی سے حاصل کیجئے

مِنْ فَضْلِكَ مَدَّةَ سَنَةٍ
فِي جَوَازِي
قَابِلِ تَأْيِيدِ الْمَدِينِ فِي
الْعُرْفَةَ الثَّانِيَةَ

احمد: مہربانی فرما کر میرے پاسپورٹ میں
ایک سال کی توسیع کر دیں
کلرک: دوسرے کمرے میں اسٹنٹ ڈائریکٹر
سے ملیں

مِنْ أَيْنَ تَخْصِلُ عَلَى تَأْشِيرَةٍ
بِأَمْرٍ مَلِكِ الْعَرَبِيَّةِ السُّعُودِيَّةِ ؟
أَوْ دِرْجِ الْإِسْتِمَارَةِ فِي
ذَلِكَ الْمَكْتَبِ
بَعْدَ أَشْيُوغَيْنِ تَجِدُ الْإِعْلَامَ
هَلْ هُنَاكَ حَاجَةٌ إِلَى الصُّورَةِ
لِلتَّأْشِيرَةِ ؟
نَعَمْ

تَجِدُ مَجْمَعِ الْمَعْلُومَاتِ مِنْ هُنَاكَ
شُكْرًا - شُكْرًا كَثِيرًا

مُتَحَنِّنٌ ثَقَافِي

(ثَقَافِيهِ)

مُتَحَنِّنٌ عَشْكَرِي

مَوْظِفٌ

كَاتِبٌ

قَرَّاسٌ

حَارِسٌ

أُورَاقُ اعْتِمَادٍ

کلچرل ایچی

ملٹری ایچی

افسر

کلرک

چپراسی

چوکیدار

سندِ سفارت

احمد: سعودی عرب کے لئے ویزا کہاں
سے لیتا ہے؟

کلرک: ویزا فارم اس دفتر میں جمع
کرویں

دوسرے بعد اطلاع مل جائے گی
احمد: کیا ویزا کے لئے فوٹو کی
ضرورت ہوگی؟

کلرک: جی۔ ہاں

تمام معلومات وہاں سے ملیں گی
احمد: شکریہ بہت بہت شکریہ

سفارتخانہ و متعلقات

السَّفَارَةِ	سفارت خانہ
السَّفِيرِ	سفیر
قَنْسُلِيَّةِ	کونسلٹ
قَنْسُلِ عَامٍ	کونسل جنرل
سِكْرَتِيْنِ	سیکرٹری
سِكْرَتِيْنِ اَوَّلِ	سیکرٹری اول
مُتَحَنِّنِ - اِتَاشِي	آتاشی (ایچی)

خَرَامَكَ رَأْسُ جَمْرِكَ فَحْمُ أَمْتَعَهُ - بَصَائِحُ	جرمانہ کسٹم ڈیوٹی جانچ پڑتال سامان	کسٹم اور متعلقات جَمْرِكَ مَرَاتِبِ جَمْرِكَ مُقْتَسِسُ	کسٹم کسٹم سپرنٹنڈنٹ انسپیکٹر
---	---	--	------------------------------------

ہوائی جہاز سے اترتے ہوئے - نازلاً مِنَ الطَّيَّارَاتِ

ایئر پوسٹس سے نمونہ گفتگو

أَيْنَ الْجَمْرِكَ ؟ هُوَ أَمَامَكَ شُكْرًا عَفْوًا فَرَجِبُوا أَنْ تَرَكَ عِنْدَ الرَّجُوعِ	مسافر: کسٹم آفس کس طرف ہے ؟ ایئر پوسٹس: وہ سائے ہے مسافر: شکریہ آپ کا بھی شکریہ امید ہے واپسی پر ملاقات ہوگی
--	--

کسٹم کلرک سے گفتگو

عِنْدِي فَرَاشٌ وَحَقِيْبَةٌ وَوِعَاءٌ سَيُفْتَسِحُ الْمَفْتِسِحُ وَقَدْ حَضَرَ	مسافر: میرے پاس ایک سوٹ کیس ایک بستر اور ایک تھیلہ ہے کلرک: آپ کو صاحبِ ممانتہ کریں گے بیچے وہ آگے
--	---

مِنْ فَضْلِكَ أَنْظُرْ إِلَى أُمَّتِي
لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ غَيْرٌ وَمَشْرُوعٌ

طَيْبٌ

مِنْ فَضْلِكَ افْعِ الْحَقِيئَةَ

أَنْظُرْ فِيهَا مَلَأَ بَيْسَ

فَكَيْسَاءَ وَأَدْوَاتُ الْحِلَاقَةِ

وَعِدَّةٌ كُتِبَ

فَمَا فِي الْوَعَاءِ ؟

نَزَمْتُ مِيَّةً وَلَعَبَ بِلَا وَوَلَادِ

وَاللَّهِ تَصَوُّرِي لِي

أَكْتُبُ مَا فِي الْجِرَابِ بِالتَّفْصِيلِ

عَلَى هَذَا الْوَرَقِ

أَيُّ شَيْءٍ آخِرٌ ؟

لَا سُكْرًا

يُتَكُنُّكَ أَنْ تَذْهَبَ

لَيْسَ عَلَيْكَ رَسْمٌ جُمْرًا كِي

مسافر: میرا سامان دیکھ لیجئے
کوئی خلاف قانون چیز نہیں

انسپکٹر: بہت بہتر

ذرا سوٹ کیس کھولئے

مسافر: لیجئے۔ اس میں چپنے کے کپڑے،

ایک گرم چادر، جلمت کا سامان

اور چند کتابیں ہیں

انسپکٹر: تھیلے میں کیا ہے ؟

مسافر: ایک تھراسن، بچوں کے

کھلونے اور ڈالی کیمرو ہے

انسپکٹر: بستر بننے کی تفصیل اس کاغذ

پر لکھ دیں

مسافر: اور کچھ ؟

انسپکٹر: نہیں۔ شکریہ

آپ جا سکتے ہیں۔

کوئی ریکسٹم ڈیرٹی نہیں۔

فوجی اصطلاحات اور فوجی عہدے

عہدے

مُشیر (فیلڈ مارشل)	فیلڈ مارشل
فَرِیق (لیوتانت جنرال)	لِفٹیننٹ جنرل
عَمید (کولونیل) - اَمیرُ الآی	کرنل
عَقید (لیوتانت کولونیل) بِمبَاشی	لِفٹیننٹ کرنل
اَمیرُ اللواء	بریگیڈیئر
سراہنڈ - (میجور)	میجر
نقیب (کابتن)	کپٹن
مُلائِمِ اَوَّل (لیوتانت)	لِفٹیننٹ
مُلائِمِ ثانی (میجور لیوتانت)	سیکنڈ لِفٹیننٹ
سَرَقِیبِ اَوَّل (سیرجنٹ میجور)	سارجنٹ میجر
سَرَقِیب (سیرجنٹ) جاویش	سارجنٹ
امیرال	بحریرہ کمانڈر
بَلوڪ اَمین	کوآرڈیناٹس
عَرایف (کوہ پورال) اَنبَاشی	کارپورل
اَلْحَرَسُ اَلْوَطَنی	نیشنل گارڈ

شُرطی	سپاہی
جُنْدی	سپاہی فوجی
عَشْکَرِی مَرُوس	سپاہی ٹریفک

دیگر فوجی اشیاء

مُسَدَس (رہیستول) فرد	پستول
طُورِ بید - لُغْم	تاریپیٹو
بَارِجَہ - مَدَمِرَہ	جنگی جہاز
طَیَّارَہ	جہاز
قُنْبِلَہ - قَذِیْلَہ (قَذَالِف)	بم
حَرْب - مَعْرَکَہ	جنگ
مِہْبَطَہ	پیراشوٹ
مَدْفَعِیَہ	بیمٹری
اَسْلِحَہ	تعمیر
صَاوِخ - جَرَّ حَار	راکٹ
اِحْتِفَال (اِحْتِفَالَات) اِحْتِمَاع	پرہیز
اِقَاعَاتِ بِالْقُوَاتِ الْمُسَلِحَہ	فوجی پرہیز اسلحہ کے ساتھ
المہرجان (مہرجانات)	پبلک ریلی
عَرَضًا عَشْکَرِیًّا	فوجی پرہیز

الای	رجنٹ
اوسطہ	بٹالین
براشوتی	پیراشوٹ
مدتعات	بکتر بند گاڑیاں
مدفع - مدافع	توپ
مدفعیہ	توپ خانہ
مرشاشہ	مشین گن
قوة بحریہ	فوج بحری
قوة بریہ	فوج زمینی
قوة جویہ	فوج فضائی
نستافہ	تار پیٹو

تجارت اور بنکاری

سوق الآدائی	بزنس کا بازار	تجارتی اصطلاحات	دوکانیں
مخلات انکتیب	کتابوں کا بازار		
سوق الصیاعہ	صرافہ بازار	مخلات - دکائین	(سٹورز)
بوصاصہ	منڈی	مستودعات	شوروم
سوق الخضروات	سبزی منڈی	معرض	بازار
سوق السمک	مچھلی مارکیٹ	سوق	

مُسْتَوِدِّينَ - مُسْتَوِدِّينَ (مُسْتَوِدِّ)	درآمد کنندگان	سُوْقُ اللَّحْمِ	بِيف (گوشت، مارکیٹ)
مُصَدِّرِينَ (مُصَدِّر)	برآمد کنندگان	ثَلَاجِحُه (ثَلَاجَات)	فِرْج (فریزرز)
مُؤْزَجٍ - مِثَال عَيْتِه	نمونہ (سپیل)	عَسَائِلَات	پکڑا ہونے کی مشینیں
حَسَبِ مُؤْزَجٍ لَوْلِيصَه	نمونہ کے مطابق بلی	اَوْرَاقِ الْمَالِيَه تَاَجِرِ الْجُمْلَه	زیر مبادلہ تھوک فروش
بِرَاسِه اِعْتِمَاد - خَطَابِ اِعْتِمَاد	نمونہ کے مطابق بلی	بَدَال - قَطَاعِي الْمُفَرَّق	خوردہ فروش
سَرَادِق خِيَمَه	بنڈل	اِسْتِخْلَاص بِالْجُمْلَه	مال چھڑانا شرک کے حساب سے
سَرَادِقَات مُسْتَع	بنک کا ایل سی (لیٹر آن کریڈٹ)	بِالْقَطَاعِي مُسْتَوْدِع - مَخْرَج	خوردہ کے حساب سے گدام
حَبْل جَمَل - حَبْلِ عَلِيظ	شامیانہ خیمہ قنات ترپال رستی رستہ	وِكَالَه وَكِيل صَادِرَات تَصْدِير اِسْتِيْرَاد طَارِبَات وَ صَالِبَات	ایجنٹ برآمدات برآمد درآمد کرتا درآمد برآمد

بذریعہ ہوائی ڈاک	وَتَدْرَأْتَدَا	غیمہ کی کیل
بذریعہ ہوائی جہاز	مُعَدَّاتٌ خَيْمٌ	لوہازم غیمہ
بذریعہ ریل گاڑی	خَيْشٌ	کینوس
میمو	طَرْدٌ	پارسل
ایجنٹ	تَسْجِيلٌ	بیسٹریشن
	يَلْعَنُ أَفًا	بذریعہ تار

گاہک اور دکاندار کی بازاری زبان کا نمونہ

السلام علیکم	گاہک : السلام علیکم
وعلیکم السلام اھللاً وسعلاً۔ یا مریحیا	دکاندار : وعلیکم السلام۔ خوش آمدید
آئی شئی مطلوب ؟	کیا چاہیے ؟
سرا دیو مطلوب	گاہک : ریڈیو چاہیے
الیش تبغنا؟ سرا یونی او الفس الشبہ	دکاندار : کونسا چاہیے جاپانی یا فرانسیسی؟
واللہ۔ سرا یونی طیب۔ مضبوط	گاہک : بخدا جاپانی اچھا اور مضبوط ہوتا ہے۔
اسرائی	مجھے دکھائیے
شوف۔ ہاڈا	دکاندار : یہ دیکھو
کم قیمتہ ؟ دیا، یکم ؟	گاہک : اس کی قیمت کیا ہے ؟
(یا) ما تمن لہذا	

تَلَاتِ مِيَا وَحَمِيْنِ سِرِيَا لَا	دو کاغذار: ۳۵۰ ریال
كُونِ تَانِي ؟	گاہک: کوئی دوسرا رنگ؟
مَا فِي - لَيْسَ موجود	دو کاغذار: موجود نہیں
هَلْ خَيْرٌ اَمِنْ هَذَا	گاہک: کیا اس سے بہتر کوئی اور ہے؟
حُذَاهُ اَطِيْبٌ مِنْ ذَالِكَ	دو کاغذار: یہ دیکھیں یہ اس سے بہتر ہے
هَذَا عَالِي كَثِيْر	گاہک: یہ بہت ہینکا ہے
حُذْ شُوِيَه قَلِيْل	کچھ کم دام لیں
سَاخِصْ شُوِيْ	کچھ رعایت کر دیں
اَعْرَبِي	مجھے ادھار دے دیں

انراہ کرم : مِنْ حُذِيْكَ (مِنْ فَضْلِكَ)
 تشریف رکھیے : لَقَدْ اَل (لِقَضَل)
 آرام کریں : اِسْتَرِي (اِسْتَرِيْح)
 شکراً (شکر یہ) کے جواب میں : اَفْعَا (عَفْوًا) مَبْرُوْك

بنک اور متعلقات

بانک - بَنک - مصرف	بنک
محدود	لمیٹڈ
بَنک تجارَتی	کمرشل بنک
بَنک اہلی	نیشنل بنک
بَنک الدولہ -	سٹیٹ بنک
بَنک مرکزی	سفرل بنک
البنک الرياض المحدود	ریاض بنک لمیٹڈ
فرسٹ ناشونال سٹی بَنک	فرسٹ نیشنل سٹی بَنک
شیک - صدق - حوالہ مالیه	چیک
کراسے الصکوک - کراسے الشیکات	چیک بک
قبض - تحصیل	روپیہ وصول کرنا
شَبَاک القبض - شیاک التحصیل	روپیہ وصول کرنے کی کھڑکی
دفع	روپیہ ادا کرنا
شَبَاک الدفح	روپیہ دینے کی کھڑکی
فتح الحسابات	حساب کھولنا
اعتماد	لیٹراف کریڈٹ
لکم	کریڈٹ (بجساب)

عَلَيْكُمْ	ڈیبٹ (بنام)
النقد	تقدی - کیش
تَقَارِيقُ - فَكْه	ریزگاری
أَمِينُ الصُّنْدُوقِ	خدا پنچی
حِسَابُ الصُّنْدُوقِ	کیش اکاؤنٹ
قِسْمُ الصُّنْدُوقِ	کیش ڈیپارٹمنٹ
دَفْتَرُ الصُّنْدُوقِ - سِجِّلُ الصُّنْدُوقِ	کیش بک
خِدْمَتُهُ - عِمَالُهُ - عَمُولُهُ	کیشن
مَدْفُوعٌ	ادا شد
مِثْرَانٌ	شکل (بیلنس)
وَرَقَةٌ	سلیپ
وَرَقَةٌ دَفْعٌ	روپیہ جمع کرنے کی سلیپ
إِشْعَارٌ	میمو
الْمَدْفُوعُ لَهُ	جس کو ادا کیا جائے
	(PAYEE)
حِسَابٌ جَارِيٌّ	کرنٹ اکاؤنٹ
حِوَالَةُ مَالِيَةٍ	بنک ڈرافٹ
تَحْوِيلُ النُّقُودِ	ایکسچینج
تَرْصِيدٌ (أَرْصِدَةٌ)	بنک بیلنس

اوزان پیمانے اور سکہ

لیومیٹر	کیلومیٹر	اقدہ	اگرہ
طول	لمبائی	جالون	گیلین
عرض	چوڑائی	کیلوگرام	یکیلوگرام
قرش (عربی سکہ)	قرش	رطل	رطل
شیلن	شیلنگ	اوقیہ	اونس
جڈیہ	پاؤنڈ	یامردہ	گز
جینیہ انجلیزی	سٹرلنگ پاؤنڈ	میٹر	میٹر
دولاس۔ ریال امریکی	ڈالر	قدم	فٹ
لیٹر	لیٹر	بوصہ	انچ

مختلف پیشے، پیشہ ورا اور عمر پیمار

مضرب	بینکار	وکیل	ایجنٹ
خیاط	شیر	فتان	آرٹسٹ (فنکار)
صیاد	شکاری	مؤنڈس	انجینئر
حلاق	نائی۔ حمام	مُعْتَل	اداکار
مزارع	کاشتکار	ساقی۔ ساقی	ڈانسرز (ناچنے والے)
ساقی	نقشہ نویس	طیار	پائلٹ

بَقَال	جزل مرچنٹ (دکریانہ فروش)	مَحَام	وکیل
سکرٹری	سیکرٹری	جَزَائِر - قَصَاب	قصاب
کاتب	کلرک	سَائِل - سَوَّان	سدا سورا
سَاعِي بَرِيد	ڈاکہ	بَايَعُ مُتَجَوِّل	پہری بگائے والا
مَمْرَضَه	نرس	طَبَاح	بادرچی
مُرَبِّيَه	آیا	عَقَّارِي	براپری ڈیلر
خادم	ملازم	مَدِير	ڈائریکٹر
بَوَابِه حَاجِب حَارِس	چوکیدار	طَبِيب	ڈاکٹر
كُتْرَبَائِي	ایلیکٹریشن	عَمِيدُ الْكَلِيَه	پرنسپل
قَرَّاش	چیراسی	مُرَظَّف	فسر آفیسر
نَرَّاسِعَه	کھیتی باڑی	قَانِي	سج
تَامِين	بیمہ	مُقْتَس	نپکڑ
غَسَّالَه	لانڈری	خَبِير	ماہر
شُرْطِيَه - بُوليس	پولیس	سَاعَاتِي	گھڑی ساز
		صَاحِبُ المَصْنَع	کارخانہ دار

انجینئر، مکینک، مختلف فنون اور ان کی اصلاحات

انجینئرنگ کے عہدے

مُھَنْدِس

ھَنْدَسَہ

مُھَنْدِس کھَرَبائی

مُھَنْدِس سِکَانِی

مُھَنْدِس مَدَنی

مُھَنْدِس عَام

نَاسِب مُھَنْدِس - مُھَنْدِس سَاعِد

رَ سَام

رَ سَام مُھَنْدِس

رَ سَام مَدَنی

مُصَنِّع

مِکَانِی - فَنی

بَرَاد

مُتَعَوِّد، مَعَاوِل

مَسَاح

انجینئر

انجینئرنگ

(انجینئر ایکٹیوٹریکل رجیٹری)

مکینک

سول

چیف انجینئر

اسسٹنٹ انجینئر

ڈرافٹسمین (نقشبندہ والا)

ڈرافٹسمین انجینئرنگ

ڈرافٹسمین سول

ڈیزائنر

مکینک

فٹر

ٹھیکیدار

سرورینر

بجلی اور بجلی کا سامان

کھڑا با	بجلی
کھڑا بائی	بجلی والا
صویرہ - مِضَر - کُش	فیوز
کبل - سِلک - سِلکِ مَعْدِنِی	تار (بجلی)
سِلکِ عِزْ مِکھَرَب	تار ٹھنڈا
سِلکِ کھڑا بائی	تار بجلی کا
لَوْحَةُ الْأَسْلَک	تاروں کا بورڈ
قَنَدِیل	لیپ
مِضْبَاح - صِغَام - لَمْبَه	بلب
دَوَاةُ الْمِضْبَاح - مَاسِک - حَامِل	ہولڈر (بجلی)
فِئْسَه	پلگ
مِفْتَاح - زِر	بجلی کا بٹن
أَنْبُوب	ٹیوب
مِرْوَاح - مِرْوَحَه	پنکھا
مِرْوَحَةُ السَّقْف	پنکھا چھت کا
مِرْوَحَةُ الطَّوِلَه	پنکھا میز کا
مِرْوَحَه بِحَامِل	پنکھا پیڈ سٹل

عَامِل (مَجْمُوعًا)	مزدور	بَرِيْثَةٌ اَلْمَرْوَةٌ	پنکھ کا پتہ
مَصْنَع	کارخانہ	بَطَارِيْه - مَرْكَم	بیریسی
وَرَسْه	درکشاپ	مَدَّ اَلْاَسْلَاك	داڑھنگ

تَضْلِيْح - اِصْلَاح

تَرْمِيْم - رَاْب

لَعْنِ بِيض

بِشْرَد

تَرْكِيْب

صِيَانَةٌ

(MAINTAIN)

مِقْلَد

لَوْلَب

مِكْبَس

صَفِيْمَةٌ اَلْحَدِيْد

وَرَقِ اَلنُّجَاج

زَنْبُوْر

شینری اور اوزار

اَللّٰه -

مَالِكِيْنَه - مِكِيْن

مَا سِيْن

نَمَابَه

مِكِيْنَةٌ اَلْحَمْرُ

مُحَرِّك

فَتِي

عَجَلَه

مِفْتَاح

مِفْتَاحُ اَلْاَنَا بِيْت

بِرْشَامَه

مِطْرَقَه

حَدِيْد

حَدَاد

مشین

ڈرل مشین

کھونے والی مشین

انجن

کینٹی

پہیہ

رینج

پاپ رینج

روٹ

ہتھوڑا

لوہ

لوہار

بڑھتی اور اوزار

مِطْرَقَه

ہتھوڑا

ڈاکٹر اور ہسپتال

امراض علاج مبالغہ طبی اصلاحات وغیرہ

طیب آستان
ڈاکٹر (دندان)
ڈنٹل سرجن
نرس
ڈاکٹر (آنکھوں کا)

امراض (بیماریاں)

حُمّی
حُمّی الیوم
حُمّی غیبیہ
حُمّی متعادیہ
مَلا رِیَہ
نَائِدَہ دَوْدِیَہ
نزلہ
وَجَع - اَلَم
بخار
بخار روزانہ
بخار (سرس)
ون کا
میٹلوی بخار
(ٹائیفائیڈ)
لیبریا بخار
اپنڈیسائٹس
نزلہ
درد

ہسپتال وغیرہ

ہسپتال
ڈسپنسری
فری ڈسپنسری
فرسٹ ایڈ
کیپاؤنڈر
ڈسپنسر
(دواسانہ)
میڈیکل سٹور
دواخانہ
بیمار
فریشن
سرجن
ڈاکٹر
مَسْتَشْفٰی
مُسْتَوْصَف
مُسْتَوْصَف حِجَابِی
اِسْعَافِ اَوَّلِی
صِیْدِی
صِیْدِیَّہ
اَجْرَ اَخَانہ
صِیْدِیَّہ
مَرِیض
طِیْب
جَرَّاح
ڈاکٹر - طِیْب

قَوْبَاءُ	داد (چنبلی)	ذَاتُ الْجَنْبِ -
نَهْرِي	پیمیش	اِتِّخَابُ الرَّئِثَةِ
حِلَّة - جَرِي	خارش	صُدَاع - دُوخَه
اِمْسَاك - مَشْك	قبض	شَقِيْقَه
اِسْهَال	دست	وَجَعُ الْبَطْنِ
فَتِي	هرنیا	وَجَعُ الْمَخَاصِلِ -
تَوَقَّفَ الْقَلْبُ	بارش فیل	لِقْرَس - رُومَاتِيْن
	حرکت قلب	ضَيْقُ النَّفْسِ
	بندہ ہرجانا	ضَيْقُ الدَّمِ
قِي - اِسْتِقْرَاح	قے	مَعْنَى اَعْمَى
تَهْوُّع	متلی	
سُعَال	کھانسی	اِضْطِدَام
عَمَلِيَّة - جَرِاحَة	آپریشن	جُرْح
اِلْتِهَاب	سوزش - دم	جَرِيح
لَوْزَة الْحَلَقِ	ٹونسل	لَفْح - لَفْحَة
	(غدد)	بَشْرَة
وَصْفَه (وَصْفَات)	نسخہ	دَمَل

مساجات اور طبی اصطلاحات

نَجْوٰہ	پلیس				
تَحْدِیْر	سُن کرنا				
مِشْرَطٌ مِیْضٌ	نِشتر		فَحْصُ الدَّمِّ	بلڈ ٹیسٹ	(امتحان خون)
جَلْمٌ - مَقَصٌّ	قینچی		نَقْلُ الدَّمِّ	خون دینا	
مِقْرَاضٌ			فِئۃُ الدَّمِّ	خون کی قسم	
نَقَالَہُ حِجْفَہُ	سٹریچر			(Blood Group)	
فِرَاشٌ - سِرَہُ	بستر (بیڈ)		دَوْرَۃُ الدَّمِّ	دورانِ خون	
اِبْرَہُ یَطْعِیْنُ	انجیکشن		بَثْلُ الدَّمِّ	بلڈ بیک	
حَقْنٌ - حِقْنَہُ	(ٹیکہ)		صَغَطُ الدَّمِّ	بلڈ پریشر	
حَقْنٌ وَرِیْدِی	انجیکشن ان وریڈس			(خون کا دباؤ)	
حَقْنٌ عَقْصِی	انجیکشن انٹر اسکولر		صَغَطُ الدَّمِّ الَّرَّفِیْعِ	ہائی بلڈ پریشر	
عَقْلِیَہُ	آپرین (چیر پھار)		صَغَطُ الدَّمِّ الَّرَّافِی	(زیادہ)	
عَقْلِیَہُ حَرَّاجِی	سرجیکل آپریشن		صَغَطُ الدَّمِّ الَّرَّخِیْفِ	لو بلڈ پریشر	
نُحْلَاجِہُ	دوا کی شیشی		الْمَقْفِضِ	(کم)	
قَنْبِیَہُ			صَنْدُوقِ اِسْعَافِ	فرسٹ ایڈ کسٹ	
کَسْوَلِہُ	کیسول		اَدْوِی		
حَبٌّ - حَبَّ	گولی		اِسْعَافِ طِبِّی	طبی امداد	
حُرْعَہُ	دوا کی خوراک		اَلرَّزَقَہُ حِیْثِیْسُ	پلاسٹر	
وَضْفَہُ	نستہ				

وَسَطِي	انگلی در میان	مَقْيَاسُ الْحَرَارَةِ	قِرَامِيٹر
خِصْرُ	چھنگلی	سَمْعُهُ مِسْمَاعُ	شیتھکریپ
بَنْصَرُ	پاس والی	قَطَاةٌ	چھرکن سننے کا آلہ
اِبْهَامُ	انگوٹھا	حُفْنَةٌ	آلی ڈراپ
عَقِبُ	ایڑھی	بَجِيحَةٌ	نیمہ
شَعْرٌ	بال	مَخْدِيرٌ	سرخ (چھکاری)
عَضْدٌ	بازو	حَدِيرٌ	سُن کرنا
اِبْطٌ	بٹن	غَيْبَةٌ	بے حس کرنا
حَاجِبٌ	بھون	كَلْبَتَانٌ كَلَابِيَةٌ	سُن کرنے والا
اَسَانُ صِنَاعِي	بٹنسی	كَلْسِيوَمٌ	بے ہوش کرنا
مُخٌ	مضوی دانت	كَلْسِيْرِيْنَ	زہنور
رِجْلٌ	جھینجا۔ منہر		کیلشیم
جَفْنٌ	پاؤں		گلیسرین
نِشَلُ	پوٹھنا		
اَلْاَسَانُ الْعَيْنِ	پسلی		
مَرَامْرَةٌ	پشلی		
هَدْبٌ	پتہ		
نَطْنٌ	پلک		
	پیٹ		

اعضائے جسمانی

اجرد
 آنکھ
 انگلی
 انگلی شہادت کی
 حاجب (حاجبان)
 عین (عمیون)
 اصبع جمع اصابع
 شبابہ

دَمٌ	خون	جَبِينٌ - جَبِيمَةٌ	پیشانی
قَلْبٌ	دل	ظَهْرٌ	پشت
سِنٌّ (اُشْتَانٌ)	دانت	عَضْبٌ	پشما
لَحْيَةٌ	دازھی	ضِلْعٌ	پسلی
خَدٌ	رخسار	سَاقٌ	پنل
لِسَانٌ	زبان	بَنَانَةٌ	پوره
نَفْسٌ	سانس	ثَدْيٌ	پستان
رَأْسٌ	سر	رَاغَةٌ	پھیپھڑا
صَدْرٌ	سینہ	حَنَكٌ	تاو
اُذُنٌ	کان	طِحَالٌ	تلی
مِعْصَرٌ - ذِرَاعٌ	کلانی	كِرْمَشٌ	توند
كَيْفٌ	کاندھا	كَعْبٌ	ٹخنہ
وَسْطٌ - خِصْرٌ	کر	ذَقْنٌ	ٹھوڑی
ظَهْرٌ	کمر (پشت)	كَيْدٌ	جگر
صَدْعٌ	کنپٹی	عَجْنٌ	پوتنڑ
وَبْرَكٌ	کولھا	سِلْسَلَةٌ اَلظَّهْرِ	ریڑھ کی ہڈی
مِرْفَقٌ	کہن	عِرْقٌ	رگ
جِلْدٌ	کھال	صَدْرٌ	چھاتی
جُبْنَمَةٌ	گھبڑی	وَجْهٌ	چہرہ

کَتِفٌ	موندھا	خَدٌّ	گال
شَارِبٌ - سَابِلَةٌ	موتھ	عُنُقٌ	گردن
ظُفْرٌ	ناخن	فَقَا	گدی
سِرَّةٌ	ناف	سُرْكَبَةٌ	گھنٹھ
أَنْفٌ	ناک	حَلْقٌ	گلا
يَدٌ	ہاتھ	لِشَّةٌ	سورہ
رَأْحَةٌ	پھیلی	فَمٌ	منہ
شَفَةٌ	ہونٹ	عَضَلَةٌ	مچھلی (مسل)

بیمار اور ڈاکٹر (گفتگو) المریض والطیب

السلام علیکم	بیمار : السلام علیکم
وعلیکم السلام - تفضل	ڈاکٹر : وعليکم السلام - تشریف رکھیں
مَا نَلِكِ يَا أَرْحَمِي؟	آپ کو کیا تکلیف ہے؟
أَنَا أَشْتَكِي مِنَ الزُّكَامِ وَالْحُمَّى	بیمار : مجھے زکام اور بخار ہے
مَنْذَمِي كَشَعْبِي مِنْهَا؟	ڈاکٹر : آپ کو کب سے یہ تکلیف ہے؟
إِنِّي مَرِضٌ مِّنذُ يَوْمَيْنِ	بیمار : میں دو دن سے بیمار ہوں۔
هَلْ اسْتَعْمَلْتَ أَيُّ دَوَاءٍ مِنْ قَبْلِ	ڈاکٹر : آپ نے کوئی دوا استعمال کی؟
نَعَمْ - اخَذْتُ دَوَاءً مِنْ صَيْدَلِيَّةٍ	بیمار : ہاں میں نے ڈسپنسری سے دوا لے
وَاسْتَعْمَلْتُهُ	کر استعمال کی ہے۔

خَذْ هَذِهِ الْوَصْفَةَ وَحَصِّلْ أَدْوِيَةَ
مِنْ صَيْدَلِيَّةِ الْمُسْتَشْفَى
شُكْرًا اجْزِئًا يَا سَيِّدِي !

ڈاکٹر: یہ نسخہ لیں اور ہسپتال کی
ڈسپنسر سے دوا حاصل کر لیں
بیمار: جناب کا بہت بہت شکریہ

هَذِهِ وَصْفَةٌ مِنْ طِبِّ الْمُسْتَشْفَى
مِنْ فَضْلِكَ أَعْطِنِي دَوَاءً مَكْتُوبًا
فِيهِمَا

بیمار: یہ ہسپتال کے ڈاکٹر صاحب کا
نسخہ ہے۔ مہربانی فرما کر
مجھے دوا دے دیں

إِنْتَظِرْ قَلِيلًا
حَتَّى أَفْرَعُ مِنَ الْمَرِيضِ الْأَوَّلِ
طِيبٌ - أَحْسَنْتَ

ڈسپنسر: مخلوطی دیر انتظار کریں
پچھلے رخصت کو فارغ کر دوں
مرضی: بہت بہتر

هَلْ عِنْدَكَ زُجَلَةٌ خَالِيَةً
لِلدَّوَاءِ

ڈسپنسر: کیا آپ کے پاس دوا کے لئے
خال خالی ہے

نَعَمْ - عِنْدِي مَوْجُودٌ
هَذَا الدَّوَاءُ فِي التُّجَلَّةِ سِتُّ جُرْعٍ
يَكْفِيكَ لِيَوْمَيْنِ

بیمار: ہاں - موجود ہے
ڈسپنسر: شیشی میں چھ خوراکی ہیں
دردن کے لئے کافی ہوں گی

وَهَذِهِ الْحَبُوبُ ؟
سِتُّ حَبُوبٍ لِكُلِّ يَوْمٍ

بیمار: اور یہ گولیاں ؟
ڈسپنسر: ایک دن میں چھ گولی استعمال کریں

حَبَّةٌ وَاحِدَةٌ بَعْدَ أَرْبَعِ سَاعَاتٍ
مِنْ فَضْلِكَ إِحْفَاقًا

ایک گول چار گھنٹے کے بعد
بیمار: مہربانی فرما کر انجیکشن لگا دیں

وَأَفْخَمَ صَخَطَ دَرِي
لَأَحْلَجَهُ هُنَاكَ لِهَذَا
شُكْرًا يَا سَيِّدِي
عَفْوًا - مَعَ السَّلَامَةِ

ادب بطور پشیم چیک کر لیں
ڈپینسر: اس کی ضرورت نہیں
بیار: شکریہ - جناب
ڈپینسر: مہربانی - سلامت باشتی

تعلیم، تعلیمی درسگاہیں اور متعلقات

تعلیمی ادارے

کلیۃ الہندسہ	انجینئرنگ کالج	اسٹار	اسٹاذ معلّم -
کلیۃ الزراعہ	زرعی ڈیگری کالج (کراچی)	شاگرد	مدلس - مُقرئ
کلیۃ الآداب	کالج	سکول	تَلْمِیْذٌ مُتَعَلِّمٌ
کلیۃ العلوم	آرٹس کالج	پرائمری سکول	مَدْرَسَةٌ
کلیۃ البشول	سائنس کالج	سیکنڈری سکول	مَدْرَسَةٌ تَأْوِیْہ
کلیۃ المزول	پیرو لیم کالج	ہائی سکول	مَدْرَسَةٌ عَالِیَہ
کلیۃ الفنون	اسٹریٹ کالج	کالج	کَلِیْہ
مدرسۃ العجمان	نایماؤن کالج	یونیورسٹی	جَامِعَہ
		فیکلٹی (شعبہ)	فَکُلْتِیْہ
		ٹرننگ کالج	کَلِیۃ التَّحْرِیْمِ مَعْہَدٌ
			کَلِیۃ التَّدْرِیْبِ
ناظر المدرسہ	سید اسٹر		

پرنسپل

عَمِيدُ الْكَلِيَّةِ

پی ایچ ڈی

دکتور - دکتورہ

ٹیچر

رئیسِ اِنْکَلِیَّةِ

ڈی۔ اے۔

دکتور فی الادب

استاذ - مُعَلِّم

ڈاکٹر آف لاء

دکتور فی الحقوق

مدرس من مُقَرَّی

ڈی فن

دکتور فی الفلسفہ

استاذ - پروفیسور

ایم بی بی ایس

ماجسٹیر فی الطب

پروفیسر

رئیسِ اَلْجَامِعَةِ

والجرعہ

پرنسپل

نائب رئیسِ اَلْجَامِعَةِ

وائس چانسلر

مُسَجِّل

رجسٹرار

مُرَاقِب

کنٹرولر

مُرَاقِبُ اَلْاِمْتِحَانَاتِ

کنٹرولر امتحانات

تعلیمی ضروریات

سَبُورَة

بلیک بورڈ

نَشَافَة

بلاٹنگ پیپر

(جاذب)

مِشْطَرَة

پیمانہ نٹ دول

مَقْعَد

بیچ (ڈیسک)

مِضْنَدَة - طَاوَلَه

میز

مُحْفَظَة

بستہ

کَرَّاسَه

کاپی

وَرَق

کاغذ

قَلَمُ الرِّصَاصِ

پنسل

اَلْهَ كَاتِبَه

ٹائپ مشین

سند

شَهَادَة

سند

دَبْلُوم

ڈپلوما

بَکَالَوْرِيَا - بَکَالَوْرِيَسِ

بی اے

بَکَالَوْرِيَا - بَکَالَوْرِيَسِ

بی ایس سی

بَکَالَوْرِيَا فِي اَلْعُلُومِ

ایم اے

مَاجِسْتِرِيَسِ

ایم اے

مَاجِسْتِرِيَسِ فِي اَلْعُلُومِ

ایم ایس سی

الکشفی	سکاوٹ	مُتَأَخَّر	دیر سے آنے والا
جَدُولُ الضَّرَبِ	پہاڑہ	(لیٹ)	
مِثْلَهُ	تعلیمی وظیفہ	مُتَسَعِّدٌ	تیار۔ چست

درسگاہ میں داخلہ کے لیے گفتگو

أَنَا طَالِبٌ
بَعْدَ التَّخَرُّجِ مِنَ الْمَدْرَسَةِ الْعَالِيَةِ
الَّتِي تَحْتَمُّ بِالنَّكِيَّةِ
أَتَعَلَّمُ الْأَدَابَ لَا الْعُلُومَ
كَأَنَّتِ الْعَوَادُ الْحَيَوِيَّةَ لَدَيَّ
التَّسْرِيعَ - وَالْإِحْصَائِيَّاتُ وَالْإِقْتِصَادَ
وَالْفِقْهَ
فِي هَذِهِ الْمَدِينَةِ أَرْتَجِي كَلِمَاتٍ
وَجَامِعَةً وَاحِدَةً
فِي جَامِعَةِ الْمَلِكِ الْفَيْصَلِ أُرْتَجِي
أَقْسَامَ (فَكَلَيْتِيَّةِ)
هَذَا مَعْتَهَدِ التَّدْرِيبِ الْمُعَلِّمِينَ
فَدَحْصَلْتُ عَلَى شَهَادَةِ
الْبِكَالُورِيَا

- ۱- میں ایک طالب علم ہوں
- ۲- مائی سکول سے فارغ ہو کر کالج میں داخل ہو گیا ہوں
- ۳- میں سائنس نہیں، ادب پڑھ رہا ہوں
- ۴- میرے پسندیدہ مضمون تھے،
تاریخ، شہادیات، انکس۔
اور فقہ
- ۵- اس شہر میں چار کالج اور ایک
یونیورسٹی ہے
- ۶- شاہ فیصل یونیورسٹی میں چاقہ کیٹی ہیں
- ۷- یہ میجر ٹریننگ کالج ہے
- ۸- میں بی اے کی سند حاصل کر چکا ہوں

مَنْ يَتَّبِعْهُ الْقَوْلُ فِي كَلِمَةٍ ابْتَدَاهُ
مَا هُوَ الْمَصْرُورُ التَّعْلِيمِي فِي
كَلِمَةِ الْعُلُومِ

مَنْ آتَى تَوْجِدَ الْكُتُبِ وَالْكَرَّ اسَات
وَاللَّوَا زِمَ الْأَخْرَى التَّعْلِيمِيَّةِ
كُلُّ طَالِبٍ يُقْبَلُ فِي الْمَدْرَسَةِ
لَيْسَ فِي هَذِهِ الْكَلِمَةِ آيَةٌ أُجْرَةٌ
الدَّخُولِ وَالْأَجْرَةَ الشَّرِيَّةِ
لَيْكُنِ الْمَحْضُولُ عَلَى كَلِّ الْكُتُبِ مَجَانًا
أَنْ تَقْسَمَ الدَّخْلِي لِنَا جَمِيلٌ وَجِدًا
خُصِّلَ مِنْ أَنْ تَقْسَمَ الدَّخْلِي
الطَّعَامَ، وَالْفُطُورَ وَالشَّايَ فِي الْمَسَاءِ

۹۔ پٹرولیم کالج میں داخلہ کب شروع ہوگا؟
۱۰۔ سائنس کالج کا نصاب کیا ہے؟

۱۱۔ کتابیں، کاپیاں، اور رومرا تعلیمی

سامان کہاں سے ملتا ہے؟

۱۲۔ ہر طالب علم کو سکول داخلہ مل جاتا ہے

۱۳۔ اس سکول میں فیس داخلہ اور ماہانہ

فیس کچھ نہیں

۱۴۔ تمام کتابیں بلا قیمت لی سکتی ہیں

۱۵۔ ہمارا پوسٹل بہت عمدہ ہے

۱۶۔ ہمیں پوسٹل سے کھانا، ناشتہ اور

شام کی چائے ملتی ہے۔

مختلف کھیلیں (GAMES) اور متعلقات

کُرَةُ الْقَدَمِ	فٹ بال	مِیَاضِئِهِ	ورزش
کُرَةُ الطَّاغِرَةِ	والی بال	مِیَاضِئِهِ بَدَنِیَّةِ	جمناسٹک
کُرَةُ السَّلَّةِ	باسکٹ بال		(جسمانی ورزش)
کُرَةُ الْيَدِ	ہینڈ بال	مِیَاضِئِهِ	کھلاڑی
کُرَةُ الْمَاءِ	واٹر بال		(پورٹ ٹیمیں)

تَدْرِيبُ	تَرْبِيَةٌ (تربیت)	تَنْسُ الطَّوْلَهُ	تَنْبُلُ تَنْبِسُ
مَضْرِبُ التَّنْسِ	تَنْسُ رَاكِبٌ	مَلَّا كَعَه	بَاكِنٌ
مَضْرِبُ	بَلَاءٌ		(مکہ بازی)
صِنَاةُ	هَبٌّ	مُلَاكَمٌ	مکہ بازی
مِبَاةُ	مِيج (مقابلہ)	مَصَارَعَةُ	کشتی کا مقابلہ
بَطْلٌ	چیمپین (ہیرو)	صَيْدٌ	شکار کرنا
بَطُولُهُ	چیمپین شپ	لُعْبَةُ الشَّيْخِ	کاوٹ والی دوڑ
حَكْمٌ	ریفری	سِبَاقٌ	دوڑ کا مقابلہ
فِرَاقُهُ	ٹیم	تَجْدِيفٌ	کشتی رانی
مَخِيطٌ - سِلْكٌ	ٹوری (دھاگہ)	رَاكِبُ الخَيْلِ	گھوڑ سواری
شَبْكُهُ	نیٹ (جالی)	فَرَسٌ وَسِيَّةٌ	گھوڑ سواری کا مقابلہ
كُرَّةٌ	گیند	سَبَاحُهُ	تیراکی
قَبْلُ النِّجَاحِ	سیمی فائنل	صَيْدُ السَّمَكِ	چھپن کا شکار
النِّجَاحِ	فائنل	تَرْخَلَقُهُ	سیکنگ
		بَلِيَا رَدُو	پیرڈ

فوتو گرافی، سینما، ٹیلیویشن وغیرہ

المرسلات الإذاعية	ریڈیو نشریات	صورة - صورة فوتو	فوتو
استوديو - مرآة	اسٹوڈیو	مُصَوِّر	فوتو گرافر
فنّ عراف - حارک	گراموفون	فِیْلِم	فِیْلِم
اُسْطُوَانَة	گراموفون ریکارڈ	اَللهُ التَّصْوِير	کیمرا
سَ اِدِیو	ریڈیو	سینما - دار التمثیل	سینما
اِذَاعَات	ریڈیو نشریات	تَلْهٰی	
(قاعدہ اذاعہ)		جَهْلًا اِسْقَاط	پرو جیکٹر
مَدِیْع	اناموسر	تَلْفِزِیُون -	ٹیلی ویژن
طَبْلَة اَلْفَنّ عِزْ	سائڈ ٹیکس	مِیْصَار	
تَلْهٰی - مَرَسَح	تھیٹر	اِذَاعَة مَرْتَبَة	
جَمْعَة سِنَمَا سِیَا	فلم شاہجہ	شَاشَة	سکرین

رشتے اور رشتے دار باں

بِنْتٌ (جمع بنات)	بہٹی	عِیَال	بال بچے
اُخْتٌ (جمع اخوات)	بہن	اَبٌ	باپ
زَوْجِیَّة - قَرِیْبَةٌ	بیوی	اَبَاء - اَحْبَاد	باپ دادا
(جمع ازواج)		اِبْنٌ (جمع اَبْنَاء)	بیٹا

جَدَّةٌ	دادی	أَخٌ رَجُلٍ أَخِيَانٌ	بھائی
جَدٌّ (جمع اجداد)	دادا	ابْنُ الْأَخِ	بھتیجا
أُمُّ مَلَّةٌ	نانڈ	ابْنُ الْأَخْتِ	بھانجی
أَعْرَبٌ	زندہوا	عَجْوَنٌ	بڑھا
مُصَاهِرَةٌ	سمدھیانہ	خَفِيذٌ (جمع أخفاد)	پوتہ
عَدِيلٌ	ساڑھو	كِنَّةٌ	بہو
مُتَنَوِّجٌ	شادی شدہ	عَمٌّ (جمع اعمام)	چچا
أَخْوَالٌ وَوَجٌ	سالا	خَالٌ	خالو
بِكْرٌ - عَدْبَرَاءٌ	کنواری	خَالَةٌ	خالہ
مُتَبَلِّغٌ ، سَمَّ بَلِيبٌ	بے پالک	عَمَّةٌ	چچی
وَلَدٌ	لڑکا	عَائِلَةٌ - أَسْرَةٌ	خاندان
أَعْرَبٌ (مُحَرَّرٌ مِنْ شَيْءٍ)	مُحَرَّرٌ (مِنْ شَيْءٍ)	نَوْجٌ	خاوند
أُمٌّ (جمع أمهات)	ماں	صِفَاءٌ	مشر
خَالٌ	بھائی	عَمْرُوسٌ - عَمْرُسٌ	بھوہا
سَبْطٌ (جمع أسباط)	نواسہ	عَمْرِيْسٌ	دھن
جَدَّةٌ (فَاسِدَةٌ)	نانی	كَهْتَنٌ	داماد

اشیائے خورد نوش

کَلَائِقُ	توا	کُونَا	آب خوردہ
مِنْشَفَةٌ	تولید	دَرَقِيقٌ	آٹا
شَايٌ	چائے	نَارٌ	آگ
أَمْرَانٌ، مَرْمُوتٌ	چاول	بَيْضَةٌ	انڈا
بَسْرَادَةٌ	چائے دانی	بَجْمَةٌ، كَانُونٌ	انگیٹھی
مَرَقِيقٌ، مَرَقِيفٌ	چپاتی	طَبَّاحٌ	باورچی
سِكِّينٌ	چھری	مَنْطِيعٌ	باورچی خانہ
مِقْبَضُ السِّكِّينِ	چھری کا دستہ	كَأْسٌ	پیالہ
فِصْلُ السِّكِّينِ	چھری کا پھل	نُحَالَةٌ	بھڑکی
حَدُّ السِّكِّينِ	چھری کی دھار	جُبْنٌ	پنیر
قِشْرٌ	چھلکا	طَبِقٌ	پلیٹ
مِلْعَقَةٌ	چمچ	ثَمْرٌ فَالِكَمَّةٍ (مِنْجُ ذَوَالِكُمْ)	چھل
كَانُونٌ - مَوْقِدٌ	چولہا	مِسْنَجٌ - قَافَةٌ	چھیکا
مُخَلٌّ	چھلنی	مَنْفَعٌ	چھوٹکی
كَيْسَرِيَّةٌ	دیاستانی	فَتْحَانٌ	پیالی
حَلِيبٌ - لَبَنٌ	دودھ	قَدَحٌ - كَأْسٌ	پیالہ
خَبْزٌ	بھنی	تَبَعٌ	تباکو

عَشَاءٌ	کھانا رات کا	إِدَامٌ، مَرَقَةٌ	سنان
عَدَاءٌ	کھانا دوپہر کا	خَضَارٌ	سبزی
كُوفِيَّةٌ كَأْسٌ	گلاس	عِظَاءٌ	سرپوش
لَحْمٌ	گوشت	مَشْرُوبٌ	شریت
لَحْمٌ مَشْوِيٌّ	گوشت بھنا ہوا	سُكَّرٌ	شکر
عَجِينٌ	گندھا ہوا آٹا	عَسَلٌ	شہد
حَطَبٌ	لکڑی	مَشْرُومٌ	قیمہ
تَرْتِيْرٌ - جِرَّةٌ	شکا	فَلِجْلٌ	کالی مرچ
سَمْنٌ	گھی	مَرٌّ	کڑوا
مَائِدَةٌ	کھن	قَهْوَةٌ	کافی
حُلُوٌّ	میٹھا	كَأَاوٌ	کوکو
مَائِدَةٌ	میز	بُنٌّ	کافی کا دانہ
فَطُوْرٌ	ناشتہ	طَعَامٌ	کھانا
مِلْحٌ	نمک	مَائِدَةُ الطَّعَامِ	کھانے کی میز

اجناس ادھیل

خَوْخٌ	آڑو	بَرَقُوْرٌ	لو بخارا
سُرْمَانٌ	زناہ	بَطَاطَةٌ	آلو
خَنَافَةٌ	امروہ	أَشْبَاجٌ - مَنجَةٌ	آم
كَمَشْرِيٌّ			

السَّلَّةُ	توکری	عَنْبٌ	انگور
جَدْرٌ	جود	تَيْلٌ	انجیر
شَجِيرٌ	جور	جَاوَرَسٌ	باجره
يَاسَمِينٌ	چنبلی	لَوْنٌ	بادام
حِمَضٌ	چننا	سَفْرَجَلٌ	بهری
سِلَقٌ	چقندر	بَادِئِجَانٌ	بیگن
مِشْمِشٌ	خرابانی	بَامِيَاءٌ	بجنندی
بَطِيخٌ - شَمَامٌ	خربوزه	سَبْنَاخٌ	پالک
كُرْبُرَةٌ	دھنیا	بَصَلَةٌ - بَصَلٌ	پیاز
قُطُنٌ	روئی	فُسْتِقٌ	پسته
نَرِيَسُونٌ	نریسن	نَعْتَاعٌ	پرودینه
بَقْلَةٌ - خَضَارٌ	سبزی	نَمْرٌ - فَالِكَمَةٌ	چهل
خَضِرِيٌّ	سبزی فروش	نَهْمَاءٌ (بِحج انصاف)	چھول
سَلَاطَةٌ	سلار	نَهْرِيَّةٌ	چھول دان
غَضَنٌ (أَغْصَانٌ)	شاخ	وَرَاقَةٌ	پتہ
بَنْجِيٌّ	شکر قندی	بَصَلٌ	پیاز
لَقَاحٌ	سیب	خَيْمَبٌ - بَطِيخٌ	رَبْرُزٌ
قَوْلٌ	سیم	سَيْسَمِيٌّ	تیل
فَاوُولِيَا	سیم چھل	طَعَاظِمٌ - قُوْطَه	مٹار

قَصَبَ السَّكَّرِ	گنا	لَفْتٌ	شکر
لَيْمُونَةٌ	لیمون	قَرَحٌ - كَوْسًا	کفہ
لُؤْمٌ	لہسن	بَلَّحَ لَمًا	کعبورد
قَوْلٌ	لوبیا	قَشَاءٌ	کھیرا
بُرْتُقَالٌ	مالٹا	كَمْزُوتٌ	کرم کالا
عَدَسٌ	مسور		(بندوبھی)
ذَرَّاءٌ	مکی	مَوْنٌ	کیلا
بَجَلٌ	مولی	زَبْنِيبٌ	کشکش
حِنَاءٌ	مہندی	قَشَاءٌ	کھیرا
حَلْبَةٌ	میتھی	جَنْزُرٌ	کاجر
جَوْشَنُ هِنْدِيٌّ	ناریل	كَمْرِنِيْطٌ	کوبھی
كُمْتَرِيٌّ	ناشپاتی	وَرْدَةٌ	گلاب
زَرْجِسٌ	زرگس	حِنَطَةٌ رَمَحٌ	بھیرا

عادات و خصائل اور کردار

مَهْتَمٌ	خوش پوش	نَظِيْفٌ	صاف ستھرا
هَادِيٌّ	پُر سکون	وَسِيْعٌ	بڑا کھیلنا
عَصِيْبِيٌّ	گھبرانے والا	جَمِيْلٌ	تو بصورت
	(دروس)	قَوِيْعٌ	بد شکل

وَاسِعٌ	کشاده	مَرِحٌ	شوخ
طَبِيقٌ	تنگ	حَزِينٌ	غمگین
كَبِيرٌ	بزرگ	نَبِيْهٌ ذَرِيٌّ	ذمین
صَغِيْرٌ	چھوٹا	عَمِيٌّ	کند ذمین
عَالٌ	بلند	شَجَاعٌ	بہادر
وَاطِئٌ	پست	حَيَّانٌ	بزدل
رَافِعٌ	اوپر	مَسْعِيْدٌ	نیک بخت
عَمِيْقٌ	گہرا	لَعِيْسٌ	بد بخت
خَفِيْفٌ	پلکا	لَعُوْبٌ	کھلنڈرہ
ثَقِيْلٌ	بھاری	كِرِيْمٌ	سخی
سَمِيْكٌ	دبیز (موٹا)	بَخِيْلٌ	کنجوس
خَجِيْنٌ	دل دار (موٹا)	قَوِيٌّ	طاقت ور
مَلِيْانٌ	بھرا ہوا	ضَعِيْفٌ	کمزور
فَاضٍ	خالی	عَنِيٌّ	امیر
مَشْغُوْلٌ	مصرف	مُقْلِسٌ - فَقِيْرٌ	غریب
طَرِيٌّ	تروتازہ	لَذِيْذٌ	مزیدار
نَاشِطٌ	خشک	كِرِيْمٌ	بد مزہ
سَهْلٌ	آسان	قَصِيْرٌ	پست قد
صَعْبٌ	مشکل	طَوِيْلٌ	لمبا

ناضج	پکا ہوا (پھل)	مَرْتَجِص	سست
تقی	کچھا	عَالٍ	سہنگا
مُوَكَّد	یقینی	نَافِع	مفید
عَنْ مُوَكَّد	غیر یقینی	بِئْرٍ نَافِع	غیر مفید
نَادِر	نایاب	مَفْتُوح	کھلا ہوا
		مَقْفُول	بند (تالا پڑا ہوا)

لباس از لیور عطریات وغیرہ

فُسْتَان	زنانہ فراک		
بَدَلَه بَدَلَه سِتَاب	سوٹ		
بَدَلَه السَّكْرَة	سورنہ کالباس	قَمِيص	کرتا (قمیص)
لِبَاسُ الْأَسْتِمَام	نہلنہ کالباس	جَوْرَب	موزہ
مِعْطَف	اورد کوٹ	جَوْرَبِ رَجَالِي	= مردانہ
مِعْطَفِ نِسَائِي	= زنانہ	جَوْرَبِ حَرَمِي	= زنانہ
مِعْطَفِ رَجَالِي	= مردانہ	بَنَطْلُون	پتلون
مِعْطَفِ فَرْد	فرد کوٹ	حِمَالَه بَنَطْلُون	گیٹس
نُسْرَاكَة	ٹان کوٹ	حِرَام	پلیٹری (پلیٹ)
صَدِّيْرِي رَوِي	داسکٹ	قُبْعَه بَرِيْبِيْلَه	ہیٹ (ٹوپ)
بِلُونَة	بلاؤنڈ (سورٹ)	رِبَاطُ الرَقِيْبَه	بکشی

آخِر طَرَاثِرِ	نیا فیش	فَنَلَه	بنیان
زَہْرَا	بُہن	عَقَقَانَا	دستانہ
صُوف	اُون	حِذَاء	جوتا
حَرَا بَر	ریشم	شَبِثِشَب	چپل
حَقِيقَتِيہ يَد	پرس (سینٹیک)	مَسَدِئِيل	روال
خَاتَم	انگوٹھی	شَمْسِيہ	چھتری
		حَبِيب	حیب
سِرْكِيہ عَطْرِيہ	عطریات (خوشبو)	صَدْرِيہ	سینہ بند (زبانہ)
مُشَط	کامی	طَاقِيہ كُوْثِيہ	ٹوپی
فَر شَہ	برش	طَوَقُ اَقْمِيض	کالر
فَر شَہ اَشَان	برش دانٹوں کا		
عَجْمُ دَالِ اَسَاد		يَلِيس	پکڑے پہننا
دَبُوسِ شَعْرَ	کلیپ بالوں کا	يَحْلَع	آٹا رانا
اَحْمَر	سرخ پاؤڈر	لَا بَس	پہننے ہوئے
مَعْجُونِ اَشَان	ٹوٹھ پیسٹ	عُرْيَان	برہنہ
صَابُون	صابن	حَيَاتِطَه	پکڑے سینے
جَمَارَہ اَحْمَرِ شَعْلَا	لپ سٹک	مَالِكِيَّةُ اَلْحَيَاتِطَه	کوشین
شَعْرُ مُسْتَعَارَا	وگد (منوئی بال)	تَفْصِيل	کاٹنا
دَبُوسِ المِنْ مِيَنَه	آرائشی کلیپ		(CUTTING)

مخالف رنگ

وَسْمَدِي	گلایہ	لَوْن (اَلْوَان)	رنگ
وَسْمَقَالِي	کاشا (اورنج)	اَحْمَر	سرخ
بَلْفَسِي - بَلْفَسِي	جامنی	اَسْوَد	کالا
اَسْمَر - مَبْنِي	گندمی	اَسْمَرَات	نیلا
سَمَادِي	آسمانی	اَضْفَر	زرد
سَمَقَات	صاف شکرہ ہوا	اَبْيَض	سفید
لَوْن اَلْبَشْرَه	بھڑکیلا رنگ	اَخْضَر	سبز ہوا
قَاهِت	اڑنے والا رنگ	سَمَادِي	سرمئی
غَامِق	گہرا رنگ	سَمَاصِي	کرم رنگ
فَارِخ	پھکارنگ	سَمِينِي - كَرِيم	

مکان فریچر اور متعلقات

مَطْعَم	کھانے کا گھر	مَبْنِي	عمارت
صَالَه	بڑا گھر	بَيْت - مَنْرِك	مکان
سُورَه	بالکونی	عُرْفَه	گھر
شِبْلَه - شِبَاك	کھڑکی	عُرْفَه اَلنَّوْم	سوئے کا گھر
نَافِذَه		عُرْفَه مَجْلِس	بچک { (ڈرائنگ روم)}

دَوْلَاب -	الماری	بَابُ	دروازہ
خزِ انْه صِوَان		مِفْتَاح (مِفْتَاحِ)	چابی
عِقَارِی	پر اپری ڈیلر	حَقَام	غسل خانہ
عَقْد	کرایہ نامہ	مَطْبِخ	باوچی خانہ
سَقْف	چھت	عَنَان	گیس
سَطْح	چھت (بالائی)	شُقَّة	فلٹ
جَنِيْئَه	باغیچہ (دکان)	طَابِق (طَوَائِق)	ایک منزل
سَجَادَة، حَنْبَل	قالین / دی	نَهْرَمِيَّة	تھراس
سِرَابِر	چارپائی	ثَلَاجَه	فرج
مِنْصَدَة - طَاوِلَه	میز	حَارِط - جِدَا سَا	دیوار
مَائِدَة		أَرْضِيَّة - بِلَاط	فرش
كُرْسِي	کرسی	سَلَم	زینہ
أَشَانَة - عَفْش	فرنیچر (سلمان)	سِتَارَا	پردہ
أَمْتَعَة - بِضَائِع		نَافِذَة	روشن دان
مَفْرُوشَات		دَوْرَا أَوَّل	پہلی منزل

ملاقات اور رخصتی کے ضروری جملے

مزوج شریف !	كَيْفَ الْحَالُ ؟	تم پر سلامتی ہو	السلام علیکم
آپ کا مزاج کیسا ہے ؟	كَيْفَ حَالُكَ ؟	اور تم پر بھی سلامتی ہو	وعلیکم السلام

انہوں کے ساتھ مبارک	مَتَّاسِفٌ مَبْرُوكٌ	بہت اچھا مبارک باشد	طَيِّبٌ حَقًّا سَعِيدًا
اگر اللہ نے چاہا آپ سچ کہتے ہیں	اِنْ شَاءَ اللهُ مَعَكَ حَقًّا	خوش آمدید آمد بخیر	اَهْلًا وَسَهْلًا يَا مَرْحَبًا
بہت اچھا بہت اچھا شکر یہ	جِدًّا جِدًّا شُكْرًا	صبح بخیر سفر مبارک ہو	صَبَاحَ الْخَيْرِ سَفَرًا سَعِيدًا
جو ابی شکر یہ شکر اللہ کے لئے ہے	عَفْوًا الشُّكْرُ لِلَّهِ	بصدِ مروت تشریف رکھے مہربانی	بِكُلِّ سُورٍ تَفَضَّلَ
خدا حافظ خطابِ احترام	فِي اَمَانٍ لِلَّهِ كَلِمَةٌ شَرَفٌ	مبارک باد انتہائی نیک تمنائیں	اَهْتَبْكَ اَطْيَبَ التَّمَنِّيَاتِ
		ازرا و کرم	مِنْ فَضْلِكَ

دو ملاقاتیوں کی بازاری زبان میں گفتگو

السلام علیکم - صباح الخیر وعلیکم السلام ورحمة اللہ - أهلاً وسهلاً	حامد: السلام علیکم - صبح بخیر۔ محمود: وعلیکم السلام تشریف لائیے۔
یا مَرْحَبًا کَيْفَ صَحْتُكَ	آمد بخیر۔ حامد: مزاج شریف بخیر باشد؟
کَيْفَ الْحَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ طَيِّبٌ - وَكَيْفَ أَنْتُمْ	محمود: اللہ کا شکر ہے۔ آپ کا مزاج؟

بال بچہ ؟

حامد: مبارک مبارک صحت ٹھیک ہے ؟

محمود: بالکل خیریت ہے

چلے بیچھے۔

حامد: شکریہ میں آج چائے نہیں

پیوں گا

محمود: دودھ والی چلے یا توہہ پی لیں

حامد: مجھے بہت جلدی ہے

محمود: آپ کے دوسرے دوست کون ہیں ؟

حامد: کل ہی پاکستان سے واپس آئے ہیں

اچھا۔ خدا حافظ

محمود: سلامت باش۔ شکریہ

دَعِيَائِلِكُمْ

أَهْلِينَ (أَهْلًا) أَهْلِينَ كَيْفَ الصِّحَّةُ ؟

طَيِّبٌ - وَاللَّهِ مَضْبُوطٌ

إِشْرَبِ الشَّيْءَ يَا رَافِيقُ ؟

شُكْرًا - مَا أَشْرَبِ الشَّيْءَ

الْيَوْمَ

إِشْرَبِ الشَّيْءَ يَا تَحْلِيْبُ

أَوْ الْقَهْوَةَ -

أَنَا فِي الْجُلْدِي لَعْنِي كَه

سُرْعَةَ سُرْعَه

مَنْ رَافِيقُ آخِرُ ؟

رَبِيعٌ أَمْسَنُ مِنَ الْيَاكُتَانِ

طَيِّبٌ - فِي أَمَانِ اللَّهِ

مَعَ السَّلَامَةِ - شُكْرًا - جِيْنِ نِيْلًا

زمین و آسمان اور مظاہر قدرت

سَیِّحٌ
شَرَابٌ - غَبَارٌ
طَقَشُنٌ

ہوا (WIND)
منی۔ گرد
موسم آب و ہوا

أَرْضٌ
سَّمَاءٌ، فَلَكٌ
أَلْهَوَاءٌ

زمین
آسمان
ہوا (AIR)

عاصِفَه	آندھی	مَطَر	بارش
زَلْزَلَة	زلزلہ	تَلَج	برف
فَيْضَان	سیلاب	ضَبَاب	کبر
بُرْكَان	آتش فشاں پہاڑ	قُوْس قَرَح	دھنک
نَار - حَرِيق	آگ	حَرَا رَاة	گرمی
نُور (رَآلُوَان)	روشنی	بُرَاد	ٹھنڈک
ضَوْء (ضِيَاء)	سلیہ	سَحَاب - سَحَابَة	بارول
ظِل (ظِلَال)	تاریکی	شَمْس	سورج
ظِلَام	دن	كوكب (كواكب)	ستارہ
نَهَار - يَوْم	رات	كُجْم - (كُجُوم)	چاند
لَيْل (لَيَالِي)	فطرت	قَمَر -	
طَبِيعَة	مشرق	بَدَا (چودھویں چاند)	
المَشْرِق	مغرب	هَلَال (پہلی کا چاند)	گرج
المَغْرِب	شمال	مَرَعْد	بجلی (گرنے والی)
المَشَال	جنوب	صَلَاعَة (صَوَاعِق)	بجلی (چکنے والی)
المَجْنُوب		بُرُق	

دریا، سمندر، معدنیات

	معدنیات	دریا، سمندر	
فَضْلُهُ	چانقہ	السَّمْنَدُ - مَجِيْطٌ	سمندر
ذَهَبٌ	سونا	بَحْرِيٌّ	جھیل
حَدِيدٌ	لوا	الْبَحْرِيَّةُ	جزیرہ
بُرُوثٌ	کانسی	الْأَعْيَانُ	پانی
رُحَاجٌ	شیشہ	شَاطِئُ السَّاحِلِ	کنرہ
رُصَاصٌ	سکّہ	وَحْلٌ وَطِينٌ	کیچڑ
أَنْعَاسٌ	ہیرا	سَلَالٌ	آبشار
النَّيْلُ	نکل	قَلْبٌ	پہاڑی دھلیلا
الرَّحَامُ	سنگ مرمر	جَبَلٌ	پہاڑ
قَصْدِيٌّ	قلعی	الْقِيَامُ	بہاؤ
سُحَّاسٌ	مانہہ		(CURRENT)
مَرَجَانٌ	مونگا	رَمَلٌ	ریت
الْبَحْرِيُّ	چونا	مَوْجٌ	لہر
حَجْرٌ	پتھر	قَحْمٌ	کونٹہ

رات دن اور ماہ و سال

		دنوں کے نام	
مَا يُؤِيُّوهُ	مئی	أُسْبُوعٌ	ہفتہ
يَوْمِيهِ	جون	أَيَّامُ الْأُسْبُوعِ	ہفتہ کے دن
يَوْمِيَّتِهِ	جولائی	السَّبْتِ	ہفتہ
أَعَشَشَطَسَ	اگست	الْحَدِّ	اتوار
سَبْتَمِيَّ	ستمبر	الْأَثْنَيْنِ	پیر
اَلتَّوْبِ	اکتوبر	الثَّلَاثَاءِ	منگل
لَوْ قَمِيَّ	نومبر	الْأَرْبَعَاءِ	بدھ
رَيْسَمِيَّ	دسمبر	الْجُمُعِيسِ	جمعرات
قَرْنٍ مَائَةِ عَامٍ	صدی	الْجُمُعَةِ	جمعہ
بِسَنَةِ عَامٍ	سال		
شَهْرًا	ماہینہ		
أُسْبُوعًا	ہفتہ		
يَوْمًا	دن		
سَاعَةً	گھنٹہ		
دَقِيقَةً	منٹ		
ثَانِيَةً	سیکنڈ		
		دنوں کے نام	
		يَنَارِيَّ	جنوری
		فَبْرَآئِرِيَّ	فروری
		مَارَسِيَّ	مارچ
		أَبْرِيَلِيَّ	اپریل

شروق	طلوع آفتاب	الْيَوْمَ	آج
مغرب	شام	صَبَاح	صبح
آفتاب	کل دگڑا ہوا	مَسَاءً	شام
غداً	کل (آئے والا)	الظَهْرَ	دوپہر
قبل آفتاب	پرسوں	بَعْدَ الظَهْرِ	بعد دوپہر
	دگڑا ہوا	يَوْمَ	دن
بعد غداً	پرسوں (آئے والا)	لَيْلٍ	رات
طغش - بجو	آب و ہوا	نِصْفَ اللَّيْلِ	آدھی رات

حیوانات

عقرب	بچھو	حُطَّافٌ	ابابیل
خرگوش	بھیر	تَيْتَانٌ - ثَعْبَانٌ	اژدھا
نر نیوٹ	بھڑ	بُومٌ	آٹو
میرزا	بلی	جَمَلٌ	اونٹ
ذئب	بھیریا	كَلْبٌ اِنَّمَاءٌ	اودھ بلاڈ
ملك الحزین	بگلا	اَبِيلٌ	بارہ شگھا
تورا	بیل	نَسْرٌ	بانہ
قنار	بندر	ضَبُعٌ	بجھو
جملح	پر	بَعَّةٌ	بلخ

نَمَلَةٌ	چیرغی	بُرْعُوثٌ	پشو
مِنْقَارٌ	چرخ	أَرْيَفٌ	پالتو باور
أَمْرَانِبٌ	خزگوش	نَمْرٌ	تسندرا
دَبٌّ	ریچھ	فَرَّاشَةٌ	تشتلی
بُحَّحَةٌ	سارس	قَمَلٌ	جون
قِرْنٌ	سینگ	عَلَقَةٌ	جونک
حَيْثَةٌ فَعِيٌّ	سانپ	سِرَاجٌ لَيْلِيٌّ يَرَاعُ	جانو
لُعْبَانٌ		حَجَلٌ	چکور
بَغْنَمِيٌّ	سور	جُدُودٌ صَرْمَانٌ	جینگر
أَسَدٌ	شیر	مَتَوَشِّشٌ	جنگل باور
شَيْبٌ	شیر و بچہ	قَنُكُوتٌ - قَرْحَةٌ	خوزه
بَيْغَاءٌ	طوطا	حَجَلٌ	بگرد
فَاخْتَةٌ	فاختہ	جَرْتٌ - قَامٌ	
كَلْبٌ	کتا	عُضْفُورٌ	شیا
عَرَابٌ	کوا	قَبْرَةٌ	بندول
حَمَامَةٌ	کبوتر	حَقَاقٌ	کادہ
سَرَطَانٌ	کیکڑا	خُلْدٌ	پھونڈر
دُودَةٌ	کیڑا	حَدَاةٌ	بیل
مِرْمِيسٌ - كَمَا كَدَانٌ	گینڈا	لَبِيسٌ	پتیا

تَمْسَاحٌ	گدھے	حِرَابٌ	گرگٹ
سَمَكٌ	مچھلی	حِصَانٌ	گھوڑا
ضِفْدَعٌ	بندک	بَقْرَةٌ	گائے
ذُبَابٌ	مکھی	حِمَارٌ	گدھا
كَلْبَةٌ	شہلک مکھی	تَعَلْبٌ	لومڑی
عَنْكَبُوتٌ	کڑی	نَامُوسَةٌ - لَبُوضَةٌ	چمچر
فَيْلٌ	ہاتھی	دَيْكٌ	مرغا
ظَبْيٌ - عِزَالٌ	ہرن	دَجَاجَةٌ	مرغی
اَوْثَانَةٌ	ہنس	صَعْوَةٌ	ممولا
		طَاوُسٌ	مور

سوالیہ حروف اور حروف اشارہ

آج کیا تاریخ ہے؟	فَیْن (آین)	کہاں؟
ایسا تاریخ ایسا	مَیْن (من)	کہن؟
تم کیا چاہتے ہو؟	آئِش - مَا	کیا؟
مادہ اشیاء؟	مَتِی	کب؟
یہ (مگر) ہذا (جج ہو لاء)	کَم	کتنا؟
یہ (موت) ہذہ		آج کیوں؟
وہ چیز خُلك • یہ چیز تِلک		آج کیوں ہذا

ہر وقت کام آنے والے

چند الفاظ اور حروف

لفظ	معنی	مثال
اَل	(۱) خاص	المکتب
	(۲) تمام	الحمد لله
	(۳) جو	الرحمن
اَلَا	خبردار (کلمہ تنبیہ)	اَلَا اِنَّهُمْ — خبردار وہی —
اِلٰی	طرف تک	اِلٰی الرَّسُوْلِ
اَلَّذِی	وہ جو کہ (اسم موصولہ)	اَلَّذِیْ اٰمَنَ
اَلَّذِیْنَ	وہ جو کہ (اسم موصولہ جمع)	اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا
اَلَّا	سوئے مگر	اَلَّا اللّٰه
اِنَّ	اگر	اِنَّ اٰمَنُوْا
اِنَّ	بیشک	اِنَّ اللّٰهَ
ب	سے ساتھ	بِسْمِ اللّٰهِ
		بِالْحَقِّ
		خاص کتاب
		تمام خوبیاں اللہ کے لئے
		جو رحم کرنے والا ہے
		رسول کی طرف
		وہ جو کہ ایمان لایا
		وہ جو لوگ ایمان لائے
		اللہ کے سوا
		اگر تم ایمان لے آؤ
		بیشک اللہ
		اللہ کے نام سے
		حق کے ساتھ

لفظ	معنی	مثال
ب	قسم	بِ رَبِّكَ
تا	قسم	تَاللّٰهِ
فِي	میں	فِي الصَّلٰوةِ
ثَا	مانند	كَشَجَرَةٍ
عَنْ	سے۔ نزدیک	عِنْدَ اللّٰهِ
حَتَّىٰ	عیشدی	عِشْدَىٰ
عَلَىٰ	پر۔ اوپر	عَلَى اللّٰهِ
لِ	لئے۔ واسطے	لِلّٰهِ
اَكَا	نہیں	لَا تَرِيْبَ
لَيْسَ	نہیں	لَيْسَ الْبِرُّ
مَا	نہیں۔ کیا۔ جو	
مِنْ	سے	مِنْ الْمَسْجِدِ
مَنْ	کون؟ جو	مَنْ اٰمَنَ
		مَنْ اَنْتَ؟
		رب کا قسم
		اللہ کا قسم
		مناساز میں
		درخت کے مانند
		اللہ کے نزدیک
		میرے پاس
		صبح تک
		اللہ پر
		اللہ کے واسطے
		کون شک نہیں
		نیکی نہیں
		مسجد سے
		جو ایمان لایا
		آپ کون ہیں

خط و کتابت

خط	خطاب، رسالہ	ڈاک کیہ	سامی البرید
لیٹر بکس	صندوق الخطاب	نمار	تلغراف - برقیہ
پتہ	عنوان	ڈاک ٹکٹ	طابع برید
لٹافہ	طرف خطاب	کارڈ	بطاقہ
پوسٹ بکس	صندوق البرید	ڈاک خانہ	مکتب البرید
بیمہ	توکیلات، تامین	پوسٹ ماسٹر	مدیر البرید
ٹیلی فون	تلفون، هاتف		

القاب آداب

الذی صاحب	حضرتہ الوالد المحترم	اهداء السلام مع غایۃ الاحترام
ابا جان	حضرتہ المجدا المکرم	اهداء السلام و تقبیل ایدیکم الکریمۃ
بھائی جان	حضرتہ الاخ	السلام علیکم ورحمۃ اللہ
دوست کے لئے	اخى العزيز، صديق العزيز	
مستور کے لئے	حضرتہ الاستاذ المحترم	
بھیل کے لئے	حضرتہ المدير - حضرت العمید	
والدہ کے لئے	سیدی الوالدۃ	
بھری کے لئے	سیدی العمۃ	
بھائی بہن	اختی العزیزۃ	

(۲)

معجم

اردو، عربی لغت

بترتیب حروفِ ابجد

الف

مُرَبِّيَه	آیا	شَلَال (شَلالات)	آبشار
مُنشَأ	آری	طَقَش - جَوَّ	آب و ہما
مُشَقِّقَه	آدھا سیسی	بُری	آب پاشی
قَطْرَه	آنی ڈراپ	مُشاشَه	آب پاش
سَمَاء	آسمان	تَلَّاجَه	آئس کبس
نِصْفُ اللَّیْلِ	آڑھی رات	اَثَرِی - عَادِی	آثار قدیمہ
مَحَاسِب - مُرِاجِع	آڈیٹر	دَخَلَ	آمدنی
اَلْیَوْم	آج	مُسَمَّع	آئل کلاٹھ
عَاصِفَه	آندھی	بُرکان	آتش نشان پہاڑ
دَقِیق	آٹا	حَرِیق - نَار	آگ
عَیْن (عُیُون)	آنکھ	مِطْفَاة - طَفَائِیة	آگ بجھانے کا اینجن
بَطَاطَه	آر	مَحَاسِب - قَاصِح	آڈیٹر
بِرَقْوَن	آلو بخارا	فِکْرِیَات	آڈیٹ یا لوجی
اَبْجَاح - مَنجَه	آم	اِسْتِمْلَال	آزادی
خَوْخ	آڑو	دَخَلَ	آمد
خَطَّاف	ایابیل	قَنان	آرٹسٹ
اَبْرِیْلِ	اپریل	مَوْظَف	آفیسر
اِسْتِیْناف	اپریل (مقدمہ)		

مَعَهَد	اداره (تعلیمی)	مُسْتَأْنَف	اپیل کنندہ
مُؤَسَّسَه	اداره	جَزَائِرِيَّةٌ عَمَلِيَّةٌ	آپریشن
(مُؤَسَّسَات)	(سیاسی-تجارتی وغیرہ)	ذَائِدَة دَوْدِيَّة	پرستی سازش
دَفْعٌ	ادائیگی	مُطْمَئِنٌّ - اِتْمَئِنِّي	آمانی
مُتَبَلِّغٌ	اداکار	اَلْاَحَدُ	(اچھی)
طَبَعَه	ادیشن		آوار
مُتَحَنٌّ	ادیشن		
بَلِيُون	ارب	حَقْلَه	اجلاس
مُسْتَعْجَلٌ	ارجنٹ	رِادُن	اجازت نامہ
بَتِّيْنٌ - لُغْبَانٌ	اڑھا	مَأْذُونٌ	اجازت یافتہ
		رُحْصَة	اجازت
اَسْتَاذٌ مُعَلِّمٌ	استاد	عَرَبِيَّةٌ	اجنبی
مُقَرَّرٌ		مَنْبُودٌ	اچھوت
اَدْوَاتُ الْكُتَابِيَّةِ	اسٹیشنری	صَحِيْفَه (صَحْف)	اخبار - جرمیدہ
مُخَدَّلَةٌ بِنَجَارِيَّةِ	اسٹیم رولر	اَسْطُوَانَه	اخبار کا کالم
دَفَائِيَه	اسٹو	بَدَلُ الْاِسْتِرَاكِ	اخبار کا چھندہ
مِرَاقَعَه	اسٹنس	صَحَافِي	اخبار نویس
نَرْسِيْكٌ - كَوْلِي	اسپرنگ	اَخِيْرًا	آخر میں

قصه	افسانه	مساعد	اسٹنٹ
موظف	انسر	اشتغال	استعمال
		کشاف	اسکاؤٹ
آحاد و وحدۃ	اکائی	مکوا (مکواوی)	استری
بدالہ	یکسج	مکوی	استری کیا ہوا
مستعمل	ایکسپریس	ناظر المخطہ	ایشیٹ ماسٹر
مجمع علی	ایڈمی	مسلمد - نائب	اسٹنٹ (نائب)
ساحۃ المصارعہ	اکھاڑہ	تحریر فی	اشتعال انگیز
مصرع		ملحق	اضافی
اغسطس	اگست		
		نشرہ	اعلان (اعلامیہ)
بوم	الو	بیان رسمی	اعلانہ سرکاری
زیادہ	الادوس	یلاغ - بیان	اعلان
علاوات العلاء	الادوس (مہنگائی)	إحصائیہ	اعداد و شمار
تاجیل	التوا	شرفی - فخری	اعزازی
بلاغ آخری	المیہ	مشکول	اعراب و الا
خزانہ صنادق	الماری		دزیر زبیر و الا
کھر بیاہ	ایکٹرک		
کھر بانی	ایکٹریکل	اشاعہ	افراہ

بیضه	انٹا	کشمیری جولاہ	برود
ججر کاٹون	انگلیٹی	اشعاف	امداد
مکتب الاستیلام	انگوارنی آفس	اصقان ملکتی	اصقان اضافی
اشتیلام	انگوارنی	مؤسساہ	امپورٹر
تشکیلات	اشکلات	مر شیخ	امیدوار
حدیث	انٹرویو		
حدیث الصحف	انٹرویو پریس	اصبح (اصاح)	انگلی
ایسہ۔ ایسہ	انجیکشن	سبایہ	= (شہادت)
دوائیہ تطعیم		دسٹی	= (دریان)
آلہ محاکہ	انجن	خنصر	= (چھنگلی)
محرک		بئصر	= (پاس والی)
اممسی دولتی	انٹرنیشنل	ابھام	انگورٹھا
بین الدول		مذلیع	اناؤنسر
عنب	انگود	مفتش	انسپکٹر
انجیلین	انگریز	مفتش عام	انسپکٹر جنرل
تطویر	انقلاب	مفتش اول	چیف انسپکٹر
لوسری	انقلابی	مفتش ثانی	سب انسپکٹر
جمعیہ	انجن	معی آعملی	انٹری کی بیماری
عصبة الامم	انجن اقوام متحدہ	خاتم	انگورٹی
ہیئۃ الامم المتحدہ			

اشراشیر	ایچھر	جَمِیَّة حَیْرِيَّة	انجمن فلامی
آسیا	ایشیا	تین	انجیر
آسیا الصغری	ایشیے کوچک	مُذِیْحٌ	اناولسر
حَدُودُ الْأَعْمَالِ	ایجنڈا	تَشْکِیلات	انتظامات
مُذْکِرَةٌ	ایکپورٹر	بُوصَه	انج
مُصَدِّرٌ	ایم	مُهْتَدِسٌ	انجیر
خَرَّاهُ	ایر ہوٹس	حَقْنَه	انیمہ
مُضَيِّفَه	ایرلائن	خَلِیج	آوارہ
خَطِّ جَوِّی	ایکسپریس	أَلَّة (الآتَم)	انذار
سَبِّیْعٌ	ایکسپریس لیٹر	اضافی	اؤورٹاٹم
بَرِیدِ مُسْتَعِجَلِ	ایر جنسی	تَرَن	اؤون (دبھی)
طَوَارِیْ	اینٹ	صُوف	اؤن
طُوبٌ	ایچٹ	جَمَل	اؤنٹ
عَمِیلٌ وَکِیلٌ	ایوان تجارت	کَلْبَةُ الْمَاءِ	اودھ بلاؤ
عُرْفَه تَجْلِیْه	ایر کنڈیشن	مَا جِئْتِنِی	ایم اس
مُکْتَبٌ	ایئر	مَا جِئْتِنِی الْعِلْمُ	ایم ایس سی
مَمَثِلٌ	ایجنسی	مَا جِئْتِنِی الطَّب	ایم بی بی ایس
وِکَالَةٌ	ایچٹ	وَالْجِرَاحَةُ	
وِکِیلٌ			

بَلْکُونِ شَرْفَهُ
(شَرْفِ)

تَوْرَتِی - تَائِرِ
خَرَسِ شَخْمِکِ

مِخْرَفِ
شَعْرُو

عَامِلِه عِيَالِ
عَلَّایَه

نَوْبَتِ
یَسَارِ

شَحْرِ
سُوقِ (سَوَاقِ)

سُوقِ الْاَوَانِی
مَحَلَّاتِ الْکَتَبِ

سُوقِ الْقَبَائِکِ
سُوقِ الْخَضَوَاتِ

سُوقِ السَّمِکِ
کَرَمَةُ السَّلَکِ

مَلَاکَمَکِ

باکسی

باعی

باڈی گارڈ
باجہ (ساز)

بال

بال بچے

بانگر

باری

بایاں

بال

بازار

بانڈ پر تنوں کا

= کتابوں کا

= صرافہ

= سبزی

= مچھلی

باسکٹ بال

باکسنگ

بے پید اچھوی

اعتماد - خطاب

اعتماد

اضطدام

عقب

ب

آب

آبائو - اجداد

جاؤں میں

کون

اٹل

کُش

شرفہ

جَنینہ

عَضُد

بارہ دست

بَلشَفِیہ -

اِبَاحِیہ

ایر میل

ای سی بنگ

L.C

ایکسپرنٹ (حادثہ)

ایڑی

باپ

باپ دادا

باجرہ

بادام

بارہ سنگھا

باز

بالکونی

باغیچہ

بانہ

باو پیما

باشوازیم

بَدْرَه	الْأَسْبَابُ	طَبَاخٌ	باد چپی
بَدْرَعِيْرٌ رَيْلٌ	بِالْقَطْرِ	أَسْنَانٌ صِنَاعِيٌّ	تیمیسی
بَدْرَعِيْرٌ هَوَانِيٌّ جِهَازٌ	بِالْبَهْرِيْدِيِّ الْجَوِّيِّ	نِيْرَتٌ	(مضروفی دانت)
بَدْرَعِيْرٌ هَوَانِيٌّ ذُو اَكْ	تَبْلَغٌ اِقْأٌ	أَسْرُوْطَه	بشن
بَرَامِدٌ	تَصْدِيْرٌ	طَبِيْعٌ	بیلین
بَرَامِدْ كُنْفَنْدَا ن	مُصْدِرِيْنٌ	صَلْعَةٌ صَوْرَتِيٌّ	بجو
بَرَفٌ	وَاحِدٌ مُصْدِرٌ	بَرْقٌ	بجلی (گرنے والی)
بَرَامِدٌ (وَرَنْبِه)	شَخِجٌ	عَقْرَبٌ	بجلی (چکنے والی)
بَرَسَاتِيٌّ	خَرَّ اَمَلَه	كَهْرَبَاءٌ	بچھو
بَرَاؤُوْكَاسْتَنِكٌ	مِنْطَرَةٌ	أَسْرَامَلَه (أَسْرَمَات)	بجلی
بَرَقْرَكْنَرِلُوْلٌ	اِدْلَعَه (اِذْلَعَات)	أَسْرَمَه اِقْتِصَادِيَه	بجھران
بُرْشٌ	تَحْدِيْدُ النَّسْلِ	حُشِيٌّ	بجھران اقتصادی
بُرْشٌ دَانْتُوْلِيٌّ كَا	رَحِيْمٌ دِيْقُرْ شَه	حُشِيٌّ اَلْيَوْمُ	ببخار
بُرِيْكٌ	مَجْنُوْنٌ دَالِاَشْتَانٌ	حُشِيٌّ عَقِيْبِيَه	ببخار دوتانہ کا
بُرِ اعْظَمٌ	قَرْمَلَه	حُشِيٌّ اِمِيْدِيَه	ببخار (باری کا)
بُرِيْكِيْتِيْرٌ	قَاتِرَةٌ		ببخار میعادوی
	اَمِيْرُ اللُّوْءِ		

دَم	بِلَط	مَحْفَظَةٌ	بِئْت
فَحْصُ الدَّمِ	بِلَطْ تَيْسِكْ	حَافِلُهُ - يَاسِ -	بَس
فِئْتَةُ الدَّمِ	بِلَطْ كَرُوبْ	لِوَصْلُهُ -	
بَيْتُ الدَّمِ	بِلَطْ بَيْتْ	رَسِيَّارَةُ كَبِيرَةُ	
صَنْعَةُ الدَّمِ	بِلَطْ پَرِيشِرْ	مَوْقِفُ مَاحِلُهُ	بِس شَابْ
صَنْعَةُ الدَّمِ تَفْعُ	بِلَطْ پَرِيشِرْ (زِيَادَةُ)	مَحْفَظَةُ التَّوْبِيْسِ	
عَالِي		فِرَاشْ	بِسْتَرْ
صَنْعَةُ الدَّمِ الخَفِيفِ	بِلَطْ پَرِيشِرْ (دَكْمِ)	جَمْرَابِ جَبْعِيهِ	بِسْتَرِ بِنْدْ
المُخَفَّفِ		قَدُومْ	بِسُولْ
هَرُ هَرِيرَةُ - قِطْعُهُ	بِلِي		
كُشَلَةٌ	بِلَاكْ دَرْدَرَا	بِلَطْ	بِلَطْ
قَالُورَةُ	بِلِي	إِبْطْ	بِغْلْ
عَمَارَةُ	بِلَاكْ مَكْ	تَوْرَةُ	بِنَاوَتْ
مِضْرَابْ	بِلَا	مَتَاخِرَاتْ	بِقَايَا جَاتْ
لُوبَلِيصَهُ	بِلِي	صَنْدُوقْ صِدُونْ	بِكْسْ
سَبُورَةُ	بِلِيكْ بُوْرُوْ	مَشْبَكْ	بِكْسُوَا
إِسْتِخْلَاصْ	بِلِي جِهْرَانَا	كَدِّي	بِكْ سِيلِرْ
بِالْمِيكَا	بِلِي جِيمْ	بُوقْ	بِكْلْ
نَشَافْ - نَشَافُهُ	بِلَاكْ مِجِرْ	مَلَكْ الحَرِيْنِ	بِكْلَا

بلیارد	بھائی	اَخ
قَبْلَهُ قَزَفَهُ	بہن	اُخْتُ
بَنَدِكْ بَانَدِكْ	بہو	كُنْتَهُ
مَسْدُود	بھتیجا	ابْنُ الْاَخِ
قِرْدَا	بھی	سَفَرٌ جَل
بَنْدَسْ مِيتَاع	بھوں	حَاطِبٌ
قَبْلَهُ	بھنڈی	بِاصِيَا
اَسَاسِي	بھانڈ	التِّيَّاسِ
تَاسِيْسِي	بھوسہ	مُخَالَهُ
بِرَانَمَه	بھٹی	قُرْن
قِنَانَهَا قَبْلَتَهُ	بھڑ	تُرَابِيْسِي
بَضْرَمَه	بھیریا	ذِمْبٌ
لُوحَه	بہوش کرنا	عَبِيْبِيَّة
لِحْنَه هَيْئَةً	بی اے	بِكَلُوْرِيَا
(هَيْئَات)	بی ایس سی	بِكَلُوْرِيْسِي
عَجُوْر	بچ	فِي الْعِلْمِ
		مَقْعَد

بینگن	بادخجان	پاس	اِذْنٌ
بیکاری	عَطَلٌ	پاس روانگی	اِذْنٌ مُرْوَسٌ
بیرومیٹر	یاں و متر	پاپ	اِمَّا سُوْرَةٌ
بیک گراؤنڈ	اَرَضِيَّةُ الصُّوْرَةِ	پارلیمنٹ	اَلْاَنْبُوْبَةُ (اَنْلِيب)
بیکری	عَجِيْنٌ	پائڈان	پاسا لیمان -
بیلن	مِظْلَمَةٌ	پاؤنڈ	مجلس نیابی
بیٹری	بَطَّارِيَةٌ مِنْ كَمِّ	پارٹی	بُرش
بین الاقوامی	دَوْلِيٌّ	پاکٹ (بجری جہاز)	جُنَيْتُهُ
بیوی	حَمِيْمٌ - نَرْوَجِيَةٌ	پاؤڈر	جَنَاب (اَضْرَاب)
بیوہ	قَرِيْنَةٌ - اَسْمَلَةٌ	پارسل	دلیل السَّقْمِ
بیہوش	تَأْمِيْنٌ	پایہ تخت	مَشْحُوْقٌ
بیہوش زندگی	اَمَّنْ عَلَي الْحَيُوْتَةِ	پالک	طَرْدٌ
	تَأْمِيْنٌ عَلَي الْحَيَاةِ	پارکنگ کی جگہ	عاصِمَةٌ (عَوَاصِم)
بیکاری	فِرَاعٌ	پاسپورٹ	حَدِيقَةٌ مُنْتَشِرَةٌ
بیگ	حَقِيْقَةٌ شَتَطَةٌ	پالک	مكان الانتظار
بیل	تَوْرٌ	پالتو جانور	جوانا - یاسپور
			جوانا السفر
			سَفِيْحَاخٌ
			اَلْبَيْتُ
	اَلْمَاءُ		

پ

برناج - لاجج	پروگرام	شعبه	پبلک
ابدال تلج المشرق	پروچین روش	(شعوب)	پبلک ریلی
اقساطی			
مخصوص خصوصی	پرایویٹ	بنزین - لفظ	پٹرول
ستار	پمره	عنوان	پتہ
دعاہ	پروپگنڈا	عنوان و نام	پتہ مستقل
مؤرخ صحیفی	پریس کانفرنس	عنوان و وقت	پتہ عارضی
ضغط	پریشر ربار	بنظرون	پیکرن
عمید	پریس	حجر	پتھر
ارٹیس الکیہ		دماقہ	پتہ
اجتہال	پریڈ	عصب	پٹھا
(اجتہالات) اجتماع		مختلہ حقیقہ	پچکاری
امراضا شکریہ		مختلہ	
عقاری	پراپرٹی ڈیلر	بنناج و ہریشہ	پتر
استاد - پروفیسر	پروفیسر	مطبوعہ	پریس
جہان اسقاط	پروہیکٹر	بیرکاس	پیرکار
حقیقہ یکد	پریس	اداة (ادوات)	پرنہجات
	(ہینڈ بیگ)	اذن و اجازت	پرمٹ
قبل اہلس	پرسون (گنڈا ہوا)	سرخسہ	

برید	پوسٹ	بعد غد	رسول (آغدا)
الجرّة البرید-	پوسٹ	فرد مَسَدَس	پستل
أَطْوَالِح	پوسٹ آرڈر	بیسٹول	پس منظر
إذن البرید	پوسٹ بکس	احیة الصورہ	پسلی
اصندوق البرید	پوسٹ بکس	ضلع	پستان
(حص - ب)	پوسٹ	شدی	پست
شرطه	پوسٹ	فستق	پستو
بلا تین	پلاٹنم	برغوث	پشت
الترقہ - جیس	پلا سٹر	ظہر	پکنک
أَصْوَق	پلاس	نرہہ	(سیر و فریح)
تربویر	پلاننگ	نرہہ خلویہ	پکا ہوا (پھل)
تخطيط	پلٹس	ناضج	پورا
لبنجہ	پنگ	بکائہ	پورہ
فیشہ	پٹ	جعید (عقاد)	پورینہ
صحن (صحنون)	پٹ	لعتاع	پورٹ
طبوق	پپ	(بندہ ربناد)	
مضجہ	پپ	میتنام	
طلنبقہ	(رہینڈ پپ)		

شَرَك	چندا	وَسِيطٌ وَسَاطَةٌ	پنج (مثالت)
مَنْفَعٌ	چونگن	مَجْتَوِبٌ	پنج (اوزار)
دَوْلَابٌ	پہیہ	لَوَابٌ	پنج
مَسِيحٌ - تَانِي	چھیکا	مَقَكٌ	پنج کش
رَاغَةٌ	چھپھرا	جُبُنٌ	پنیر
		مَعَاشُ التَّمَاعِدِ	پاشن
يَضَلُّهُ - بَصْرٌ	پیانہ	مُتَعَلِّدٌ	پنشنز
فِجْجَانٌ	پیالی	قَلَمُ الرِّصَاصِ	پنسل
كَأْسٌ - قَدَمٌ	پیالہ	مِرْوَجٌ مِرْوَجَةٌ	پنجا
حِزَامٌ	پیٹی (بلیٹ)	رَقْفَصِيلٌ دِكْمِيْنٌ	
الْاَثْنَيْنِ	پیر (سوموار)	زَبْرَعِنَوَانٌ بَجَلِيٌّ	
جَيْشِيْنٌ جَيْهَةٌ	پیشانی	سَاقٌ	پنڈل
مَشْطَرَةٌ	پیمانہ		
بَاثَالُوْجِيٌّ	پیتھالوجی	بَوَابَةٌ	پھاٹک
	(علم اللادویم)	حَدْوَلُ الصَّرْبِ	پھاٹا
فِجْجَانٌ - كُوْ	پیالی	خَمْرٌ (شمار)	چھل
اِبْرَشُوْتِيٌّ	پیراشوٹ	فَاكِهَةٌ	
مَوْبَطَةٌ		نَرْحَمَةٌ (آنر حلت)	چھول
خَتَامَةٌ	پیشہم کشنی (کا)	نَرْحَمَةٌ	چھول دان

نیل
بٹ
تنگ
یشہ

دَوَاسَسَه
بَرَنَمَه (برنامہ)
طَرَادُ (طرُود)
لَعْبِيَه
مِهْنَه

تلی
تجارتی منڈی
تحقیقات
تختی

قَرَّاشَه
بُورَاصَه
اِسْتِعْلَام
لوحہ

ت

رکول
ار (ٹیلیگرام)
ار بجلی کا
قیعات
ار کا فارم
مارگر
مارپیٹ
نائبہ
نالو

بِرَاقَت - قَاس
بِسَلَك - كَيْل
اِسْمَارَه بَرَقِيَه
تَلْعِرَاف
بِسَلَك كَه بَاي
اِسْتِعْلَام
فَرَاق بَرَقِيَه
اِسْمَارَه تَلْعِرَاف
مَكْتَبُ التَّلْعِرَاف
طَوْر بِيَد - لَعْنَم
تُحَاس
حَنَك

تراشہ
تراشہ
ترمیم
ترجمان
ترجمان سرکاری
تریال
تربوزہ

لَقْصِيْلَه
مُقْتَطَعَات
تَعْدِيل
نَاطِق
نَاطِق بَرَشْمِي
مُشْع
حَبَاب بَطِيخ

تصویر
تعطیل
تفریح
تلی
تمباکو
تمغہ

صَوْرَة
عُظْلَه
نُزْهَه
طِحَال
تَبْعَه
دَلْوَرَه

تربت تسبم	تیریل تیرالی	کیش طابق	توند توا
تسبلتہ تشکیلات تمرض	تیاریان تیماردار	فوطہ - نشافہ منشفہ	تولیہ
		مدفعیہ مدفع (مدافع)	توپ خانہ توپ
		تدید	توسیع
	ٹاپ کا حوزہ		
تقرن مطبوعی - تقرن حدیدی	ٹاپ ماٹر ٹاپ فونڈری	ثلث تاجر الجملہ	تہائی تھوک فروش
اللہ کاتبہ مشتک		ترشح ملہی ضبطیہ	تھیٹر تھانہ
حروف الطباعہ بلاط (بلاطہ) تیغور	ٹرائل ٹائینڈ	تاجر الجملہ بالجملہ	تھوک فروش تھوک کے حساب
حتیٰ میعلیہ اللہ کاتبہ کعب	ٹاپ مشین ٹخنہ	مقیاس الحرارة وعاء تر من میہ	تھرامیٹر تھیلا تھراس
مخزات بخاری حرکت الموریر	ٹریکٹ ٹریفک		تیندوا

مَقُولٌ مُقَاوِلٌ مُلْتَرِمٌ	شیکیدار	حِیْنَه تَدْرِیْب	سُرْت سُرِنِیَک
مِیْصَارٌ اِذَاعَهٗ مَرِیْئَهٗ فِرْقَهٗ مِضْرَابُ النَّسْنِ نَسْنُ الطَّوْلَهٗ تَاکِی - اُجْرَهٗ اَنْبُوبٌ اِخْتِیَارٌ فِیْ حُصْنٍ (مُحْصِنٌ) مَنْلَهٗ دَبَابَهٗ کَبَابَاتٌ تَلَاعُونٌ - هَائِفٌ مِیْسَرٌ رَقْمٌ هَائِفٌ نَهْرَهٗ تَلَاوُنٌ بِدَالَهٗ التَّلِیْفُونِ بِدَاذٌ بِعَلْمٍ مِیْقَرِی	شیلی ویزن شیم شینس راکٹ شیل شینس شیکسی کار شیوب شیسٹ شین شاک شیلی فون شیلی فون نمبر شیلی فون ایکسچینج شیمپیر	مَذْکِرَهٗ طَالِحٌ (طَوَالِحٌ) قُرْصٌ شَرْحَهٗ طَمَّاطِمٌ قُوْطَهٗ صِفْرٌ مَحْ طَائِیَهٗ - کُوْفِیَهٗ فَیْئَهٗ سَلَهٗ مَعْجُونُ الْأَسَانِ مُبَارَاةٌ قِفٌ مَصِیْفٌ ذَقْنٌ	ٹکٹ (سوروی ڈیرا) ٹکٹ (ڈراک) ٹھیکہ ٹکڑا (ٹاش) ٹماٹر ٹنکی (پانی کی) ٹوپی ٹوکن ٹوگری ٹوٹھہ ٹوڈمانٹ ٹھہر جاؤ ٹھنڈا مقام ٹھوڈی

ث

ثالث

وسیط (وساطة)

ج

جڑ

جرانہ

جشن

جہلی

جگ

جگر

جگنو

جلسہ

جلسہ نامی

جمہوریت

جمہرات

جناسک

قاضی

جذرا

عقوبہ مالیہ

عمر امہ

مہرجان

مُفْتَعَل

مُخْتَلَف

اِثْرِ یَق

کبید

سِرَاجُ اللیل

یَسَاع

حَقْلَه (حَقَلَات)

حَقْلَه السَّابِر

ذِمَمَ اَطِیْہ

اَلْحَمِیس

بِیَاثَه بَدَنِیْہ

ج

شَرَاک

شَبَکَہ

مَصْبَح

تَبَان

اِسْتِعْرَاض

اِقْطَاعِی

مَلِکْ مَنْقُول

مَلِکْ ثَابِت

نَشَاف

فَحْص

قَهْمَرِی

تَقَامُدْ قَهْمَرِی

جال

جالی

جالی

(توں سیکے کی)

جانگیہ

جانزہ

جانگرداہ

جاندار منقولہ

جاندار غیر منقولہ

جاذب

(بلاننگ پیر)

جانچ پڑتال

جبری

جبری ریٹائرمنٹ

بجھری بجھاس جبد جڈ صمصاس	جہاز راں جھینگہ	بِنَائِر مُتَوَحِّش بِقَالَ سَيِّد سَيِّدَات مَعْرَاةَ حَرْب تَقْوِيم	جنزری جنگلی جانور جنرل مرچنٹ جناب (محترم) (خواتین) جنگ جنتری
سجین سجیان نشالین	جیل جیلر جیب کترے	يُونَيْه يُولِيَه قَمَل عَلَقَه حِذَاء	جون جولائی جوں جونک جوتنا
شای شایِ اَحْضَا شایِ بِالْحَلِيبِ اَثْبَاقِ النَّسَائِ بِرَّ اَدَه بِرَّ اَدَا النَّسَائِ جَدْوَل حَلَاك كِسَاء	چائے چائے (سبز) چائے (دودھ والی) چائے دانی چارٹ چاک چادر	سَفِيْنَةٌ طَيَّارَةٌ بَارِجَه مُدْمِرَةٌ بَحِيْرَةٌ	جہاز (بحری) جہاز (فضائی) جہاز (جنگی) جھیل

ج

جَبِينَةُ الْحَيَوَانِ	چڑیا گھر	مِفْتَاحُ	چابی
مَضْعَدُ	چڑھائی	أَسْنَى - سُرْتَى	چاول
عَيْنٌ وَنَطَّارٌ	چشمہ	سَسِيرٌ	چارپائی
(عُيُونٌ مُؤَنِنَاتٌ)		قَمَّ	چاند
تَجَلُّ	چکور	بَدَسٌ (چمڑ پرین کا)	
طَاحُونَةٌ	چکی (آٹے کی)	جِلَالٌ (پہلی کا)	
سَلَقٌ	چقندر	فِضَّةٌ	چاندی
مِلْقَطٌ	چمی	شَبِثٌ	چیل
مِلْعَقَةٌ	چمچ	قَرَّاشٌ	چپڑا سی
حَفَّاشٌ	چمکا ڈر	عَيْشٌ رَافِقٌ -	چپاتی
مِدْحَنَةٌ	چمنی	رَافِعٌ	چٹائی
حِمْسٌ	چنا	حَصِيرٌ	چٹھنی
تَبْرَعٌ (تَبْرَعَاتٌ)	چنہ	مِرْلَاحٌ سَلْطَةٌ	چچا
بَدَلُ الْأَشْرَاكِ	چنہ اخبار	عَمٌّ	چچی
جُمَاكٌ	چنگی	عَمَّةٌ	
(جَمَارِكٌ)		مِقْتَالٌ	چرخا
		عُضْفُورٌ	چڑیا

مَقْبَضُ السَّكِينِ	چھری کا دستہ	سَرَبَاح	چوتھالی
حَدُّ السَّكِينِ	چھری کی دھار	بَحْرُ	چوتھڑ
وَجْهٌ	چہرہ	خَارِسٌ - بَعَاب	چوکیدار
خَلْدٌ	چھچھوندہ	كَتُوتٌ - فَرْخَةٌ	چوزہ
قَشْرٌ	چھلکا	جَوْرٌ - خَانٌ	چوہا
مُشْخَلٌ	چھلنی	مِضِيدَةٌ	چوہے دان
إِنْرَامِيلٌ	چھیننی	مِنْقَارٌ	چوہے گچ
		أَلْبَجِيرٌ	چوہہ
حَدَّ عَرَّةٌ	چیل		
سُكْرٌ	چینی	صَدْرٌ	چپاتی
صَكٌّ - شِيكٌ	چیک	طَبِيعٌ	چھاپ
حَوَالِدٌ مَالِيَةٌ		مَطْبِيعٌ	چھاپ خانہ
كِرَاسَةُ الصُّكُوكِ	چیک بک	سَطْحٌ	چھت (بالائی)
كِرَاسَةُ الشِّيكَاكِ		سَقْفٌ	چھت (ذیریں)
بَطْلٌ	چھیننی	مِظَلَّةٌ مِطْرِيَّةٌ	چھتری
نَمْرٌ	چیتا	سَمْسِيَّةٌ	چھٹی
نَخْلَةٌ	چوینٹی	عَطْلَةٌ	چھبہ
		سَعَادَةٌ	
		سِكِينٌ	چھری

حَلَّه - جَرَبَتْ	خارش	ح	حَالِ بِي مِیْن
نَرُوج	خاوند		حَالَات
خَالَ	خالو		عَادَثَه
أَرْسَبْ	خزگرش		(ایکسپڈنٹ)
خَرَّاط	خزاد		حِجَام
خَرَّاط	خزادی		حِزْبِ مَخَالِف
شَمَام - بِطِخ	خزبوزه		حِصَه (کمپنی کا)
ضَرَّاف	خزانیچی		حِصَه دَار
اَمِیْن الصَّنَدُوق			حَقَّه
صَهْرَه	خسر		حَقَّه نَوشِی
اِمْرَسَالَه - کِتَاب	خط	حُكُومَت	
اَمَلُکُوت - خِطَاب		خِرَالَات	
خَطْر	خطرہ		
جَو - فِضَاء	غلا	خ	خَارُوج
مَرَايِدُ الفِضَاء	غلابانہ		خَاك
مِشْمِش	خوبانی		

خَزَاك	مُوْنَةٌ (مُوْن)	واماد	خَتَن
خُورِدِ بَيْنِ	مُجْهِه	دارا	جَدُّ (اجداد)
خُورِدِه	بِالضَّرِيْقِ	دادی	جَدَّةٌ
خُورِدِه فَرْدَش	تَابِرِ الْمَفْرَقِ -		
	بِدَالِ قَطَاعِي	در دسر	صُدَاعٌ - حُوْحَه
خُون	بِكَيْتِيْن "بِلْدُه"	دروازه	بَابٌ
(دارتعلقه اسراض)		درزی	خَيْطٌ
خُون دِيْنَا	نَقْلُ الدَّمِ	درانه	دُرَّاج
خُون كِي قَسَم	فِيئَةُ الدَّمِ	درجه (كلاس)	صَفٌّ
خَيْرِ مَقَام	تَرْجِيْب -	درآمد برآمد	اَوَابِدَات و
	كَلِمَةُ التَّرْجِيْب	درآمد کنندگان	اَصَادِرَات
			مُسَوِّرَاتِيْن -
			مُسَوِّرَاتِيْن
دَايِه	قَابِلِه		
دَاخِلِه	دُخُوْلٌ - قَبُوْلٌ	دستار دیزات	اَسْنَدَات -
دَايَان	لَيِيْن		اَسْتَنْدَات
دَاو	قُوْبَاءُ	دستخط	اِمْتِضَاءٌ - تَوْقِيْعٌ
دَاوِئِي	لِحِيَّةٌ	دست	اِشْهَالٌ
دَاوِئِي	بِيْنِ (اَسْنَان)	دستانه	قَفَاتِرٌ

ظہار	دوبہر	مکتب	دفتر
محمود	دھرا	مکتب الاستعلامات	دفتر معلومات
گزبہ	دھنیا	قلم الاستعلامات	
صیانتہ	دیکھ بھال	قلب (قلوب)	دل
ثعلب - نقوب	دیاسلائی	قواد	دلال
حانظ - جداس	دیوار	ضیق النفس	دم
ط		ضیق الدم	
برید	ڈاک	یوم	دن
برید جوئی	ڈاک (ہوائی)		
مکتب البرید	ڈاکخانہ	صیدتی	ددا سنانہ
طالچ (طوالچ)	ڈاک ٹکٹ	مرتب فلکی	دور بین
ساعی البرید	ڈاکیہ	منظما	
طیب	ڈاکٹر (فزیٹیشن)	حلیب - لبن	دودھ
دکتور	ڈاکٹر	مضاعۃ الاطفال	دودھ کی شیشی
طیب اسنان	ڈاکٹر (دندان)		(بچوں کی)
طیب عیون	ڈاکٹر (آنکھوں کا)	جرعہ	دوا کی خوراک
جراح	ڈاکٹر (سرجن)	سباق	دوڑ کا مقابلہ
دکتور فی الحقون	ڈاکٹر آف لاء	عمر سن - عمر و سن	دولہا
مدیر	ڈائریکٹر	عمر لیس	دولہن

مَصْرِيفُ الدَّعْوَى	ڈگری خرچہ	مُدِير عام	ڈاکٹر کبیر جنرل
شَرَا حُ	ڈور	دلیل	ڈاکٹر کبیر ٹری
عِصَام	ڈوری	مَرَقَص	ڈانسنگ ہال
عِطَاء	ڈھکن	دولار دیال آرگ	ڈالر
مُتَخَفِّضُ	ڈھلوان	عَلِيه (عَلَب)	ڈببہ
سَبَك	ڈھلائی	نَائِب (نَوَاب)	ڈپٹی
مَسْبَك	ڈھلائی کارخانہ	دَبْلُوم	ڈپلوما
مَلْبَنَة	ڈیری فارم	تَمَثِيلِيَه	ڈرامہ
رَسَام مَصْنِع	ڈیزائنر	سَوَاق	ڈرامیور
رَسْم (رَسْمُوم)	ڈیزائن	(رَسَوَاك)	
تَصْنِيْع		رَسَام	ڈرافٹسمن
مَبْعُوْت مَبْدُوْب	ڈی لیٹ (رناٹک)		
بَعُوْتَه - اِبْعَثَه	ڈی گیشن (وفد)	مُسْتَوْصَف	ڈسپنسری
دَكْتُوْرَه	ڈی فنل	صِيْدِي	ڈسپنسر
فِي الفَلْسَفَة		مُعْجَم - كَامُوْس	ڈکشنری
دَكْتُوْرَه	ڈی لیٹ	دَكْتَاوَس	ڈکٹیٹر
فِي اللادِب		الْمَاذُوْنِيَه	ڈگری

ذ

مَسْئُولٌ	ذمه دار
مَسْئُولِيَّةٌ	ذمه داری

ر

صَارُوْخٌ بِرَجُلٍ	راکت
صَوْتُ	رائے (دورث)
مُصِیْعَةٌ - نَاخِبٌ	رائے دہندہ (دورث)
مَمْرٌ - طَرِيقٌ	راستہ
(طَرِيقٌ)	
لَيْلٌ (لَيْالِي)	رات
أَرْمَلَةٌ	رانندہ

رَجْبٌ طَرِيقٌ	رجسٹریشن
رَجْبٌ طَرِيقٌ كَارِدٌ	رجسٹریشن کارڈ
رَخْسَارٌ	رخسارہ

رِسَالَةٌ	رسالہ
رَسِيْدٌ	رسید
رِسِيٌّ	رسی
رِسْمِيٌّ بَاتِ حَيْثٌ	رسمی بات چیت
رِسْمٌ	رسم

رِضَاكَارَانَةٌ	رضاکارانہ
رِضَاكَارٌ	رضاکار

رِكَاوُثٌ دَالِيٌّ دَوْرٌ	رکاوٹ دالی دور
رِكَابٌ	رکاب
رِكَنٌ	رکن
رِكَائِفٌ	رکینت

رِزْدَةٌ	زندہ
----------	------

رَبِيْعٌ	رب پورٹ
رَجْمٌ	رجسٹ
رَجْبٌ	رجسٹر
رَجْبٌ طَرِيقٌ	رجسٹرڈ
رَجْبٌ طَرِيقٌ	رجسٹرارہ

کاتب العقود

رَمَلٌ	ریت	رَمَلٌ	رَمَلٌ
مُسَدَّسٌ	ریوالور	رَمَلٌ	ریم (کاغذ کا)
حَکْمٌ	ریفری	لَوْنٌ (الوان)	رنگ
مَثَلَجَةٌ	ریفریکٹیو	مَخْتَلِفٌ رَنُجٌ	مختلف رنگدیکھیں
رَمَادَةٌ (رَمَادَاتُ)	ریفریج	زَبْرَعَنَوَانٌ رَنُجٌ	زبر عنوان رنگ
بَحْتُ (بَحُوتُ)	ریسیرج	دِهَانٌ	رنگ ساز
تَعَاوُدٌ	ریٹائرمنٹ		
رَمَادَةٌ (رَمَادَاتُ)	ریاست	مِثْدِيلٌ	رومال
اِسْتَعَانٌ	ریلیف	بِرَشَامَةٍ	روٹ
اِسْطَوَانَةٌ	ریکارڈ (رگولون)	قَطَنٌ	روٹی
(اِسْطَوَانَاتُ)	ریزرو (محفوظ)	مُكَبَّرَةٌ يَوْمِيَّةٌ	روزنامہ
مُسْتَبَقِيٌّ	ریزرو (محفوظ)	عَيْشٌ - جُنُودٌ	روٹی
قَطَارٌ	ریل گاڑی	فَيْسِيٌّ (فَطَارِيٌّ)	روٹی بخیری
حَطُورٌ عَرَبِيَّةٌ	ریل گاڑی	رَحْمَدَلَةٌ	رولر
قَالِقَةٌ وَالْبُوسُ	ریل گاڑی	نَافِذَةٌ	روشن دان
مَحَطَةٌ	ریلوے اسٹیشن	نُورٌ (النور)	روشنی
قَضِيْبٌ	ریلوے اسٹیشن	ضُوءٌ (ضياء)	
مِسْكَمٌ الْحَدِيدُ	ریلوے اسٹیشن		
وَمَقٌ الزَّرْحَاجُ	ریلوے اسٹیشن		
	ریلوے اسٹیشن	مِسْدٌ	ریتی

س

عارف	سازگی نواز
مِعْرَف	ساز
عَدِيل	ساز صو
سَهْبَت - رَبِيب	ساز جنت
جاویش	
سَرِيب اَدَل	ساز جنت میجر
سَنَه - حَام	سال
اِداَم	سالن
عَمَش - اَمِيعَه	سامان
بَصَلِح	
حَيَه - اَفْحِي	سانپ
اِسْتَعْمَار	سراج
ظَل (ظِلَال)	سایه
نَفْس	سانس
حُضْرِي	سبزی فروش
حُضَار - بَقَلَه	سبزی

سَر اِدِيلو
المِراسِلَ الاِذَاعِيَه
دُب
سَجَل (سَجَلات)
اِسْتِغْنَاء - اِسْتِغْرَاب
تَفَارِيق
فِكَّة نَقُود

رِيذِيلو
رِيذِيلو نَشْرِيات
رِيحِيه
رِيكارڈ
رِيغْرِنْدَم
رِيزگارِي

ز

زبان	زبان
زبانِي	زبانِي
زخم	زخم
زخمِي	زخمِي
زرمبادلہ	زرمبادلہ
زنانه	زنانه
زمانہ پن	زمانہ پن
زنجور	زنجور
زیر زبرد والا	زیر زبرد والا
زبان	زبان
زبانِي	زبانِي
زخم	زخم
زخمِي	زخمِي
زرمبادلہ	زرمبادلہ
زنانه	زنانه
زمانہ پن	زمانہ پن
زنجور	زنجور
زیر زبرد والا	زیر زبرد والا

مَحْدَلَه بَخَارِيَه	سِيم رولر	شُر طِي	سپاهی
حَاوِل	سِيند	جُنْدِي عَشْكِرِي	سپاهی (رُجِي)
حَمَامَه	شِيمپ پِيٹ	عَسْكِرِي مَرَوَس	سپاهی (رُفِيك)
اِحْتِمَال	سِينوگَرَانِي	نَر نِيْرَك	سپرنگ
تَحْرِن	سُوْد	مُر اِقِب	سپر داکتر
مِشَاع	سِيْتَسْكُوپ	مَلَاخِظ	سپر فٹنٹ
		قِطْح اَلْعِيَار	سپیر پاپش
غَطَاءُ	سِر پَرَش	بِر يَا ضِي	سپور شمين
مَسَاح	سِر دِيْر	اِحْتِصَاصِي	سپيشٹ
نُزُل	سِرَاءُ	سُرْعَه	سپيٹ
مَشْتِي	سِر دِيْر (گرم مقام)		
نَمْعِيْم	سِر بَرَاه	دَوْبَارَه	سْتِي
حُمْرَه	سُرْخِي	نَجْم (اِنْجَم)	سْتَارَه
نَاظِق سِر سِيِي	سِر كَارِي تَرْجَان	كُوْكَب (كُوَاكَب)	سْتِيْسِل
سَمَاءُ شَمَالِي	سِر يَايَه دَار	مَرَقَعَه	سْطَاك
سَمِشِي	سِر كَارِي	خَرْخِيْرَه	سْطِيْث
شَهَادَه	سِر شَيْكِيْث	اِمْلَكَه (مَسَارَات)	سِيْم
كَسَاآء	سِر وِتَا	بَخَار	سِيْمِر
مَلْتَب اَلْحَيْل	سِر كَس	بَلْتَرَه (بُوَاخِي)	

سجّارہ (سجّار)	سکار	منشور	سرکار
نفاذہ تیغ	سگرٹ	شایع	سٹرک
لفیظہ تیغ		آختر	سرخ پاؤڈر
تدخین	سگرٹ نوشی	سٹاس	سٹر
اذن - اشارہ	سگنل ریولوت	صداع - دوحہ	سرورڈ
ملووحہ		سجّارہ	سیرنج
سلاطہ	سلاد	السقاچاہ	سفارت خانہ
خفّ	سلیپر	عُملہ	سکّہ
غلابیہ	سماوار	مدیر سہ	سکول
مُصاہرہ	سمدھیانہ	مدیر سہ ابتدائی	سکول پرائمری
إخصاریہ	سمن عدالت	مدیر سہ ثانویہ	سیکنڈری سکول
تکدیر	سمن کرنا	مدیر سہ عمالیہ	ہنگول ہائی
نفع - لُحّہ	سن سٹروک	الکشفی	سکاؤٹ
	(لوگلا)	نہ خالقہ	سکینگ
شہادہ	سند	سہ خاص	سکھ
إجازہ - المانہ	سند ڈگری	مشروع	سکیم
		امین - سکریٹری	سکریٹری

صَدْرٌ	سینه	مَازُون	سند یافتہ
صَدْرِيَّةٌ	سینہ بند (زنانہ)	مُخَام	سنگ مرمر
تَضْفِيرًا	سیٹی بجانا	نَحَات	سنگ تراش
صَفَاةٌ	سیٹی		
قَبْلَ الْاِثْمَانِي	سیمی فاسل	مُشْرِبَةٌ	سوپ (شوربہ)
ثَانِيَةً	سیکنڈ	بَدَلَةُ ثِيَابٍ	سوٹ (کپڑوں کا)
نُوك	سیم	(مبدلات)	
فَاصُولِيَا	سیم پھلی	بَدَلَةُ السُّفْرَةِ	سوٹ (رات کا)

ش

سِرْدِقَةٌ (سردقہ)	شامیانہ	لِبَاسِ الْاِسْتِحْمَامِ	سوٹ (پہننے کا)
سُوْرِيَا	شام (ملک)	اِسْتِحْمَامِيٌّ	سوشلسٹ
تَلْمِيذٌ مُتَعَلِّمٌ	شاگرد	اِثْتِهَابٌ	سوزش
مَسَاءٌ	شام	شَمْسٌ	سورج
		مَقْعَدٌ	سیٹ
		طَقْمٌ	سیٹ (جوڑا)
		نَفَّاحٌ	سیب
مَشْرُوبٌ	شریت	اَنْزَمَهُ بِيَاْسِيَّةً	سیاسی بحران
سُكَّرٌ	شکر	اِسْتَمْنَتْ	سینٹ
سُكْرِيَّةٌ	شکران	مُخْلَقَةٌ	سیٹی رینر
مِلْزَمَةٌ	شکنجہ		

قرآن - مائة عام اقلیم - ایالہ منطقہ مجلس اقلیمی	صدوی صوبہ صوبائی کونسل	لغت حرق اعتماد بطاقت ہویہ	شلم شناختی کارڈ
--	------------------------------	---------------------------------	--------------------

ض

مدیریت منطقہ ملحق (ملکات)	ضلع ضمیمہ	حساء مخرض عسل مدنی امیر امیر اطوس امین اطوریہ	شوربا شوروم شہد شہری شہزادہ شہنشاہ شہنشاہیت
---------------------------------	--------------	---	---

ط

اشعاف ببغاء	طبی امداد طوطا	قتیلہ - قرآنہ نہج آسند سہم	شیشی شیشہ شیر شیر (عقدہ)
----------------	-------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

ع

عام مخفف متعلق دارالآثار دارالفضل حکومت	عام عجائب گھر عدالت	ص صابونہ صباح	صابن صبح
---	---------------------------	---------------------	-------------

بیراد	فِرْ	اِقْلِيم	علاقہ
سَرِصِيف	فَتْ پاتھ	اَهَالِي - بَعْدَ	عوام
(اَسْرَضِعَكَ)	فَتْ	شُعْب - جُمُودِي	عوامی
قَدَم	فَتْ	شُعْبِي	عینک
كِرَّةَ الْهَدَم	فَتْ بال	عَوِيْنَات	
		منظار	

مِقْلَاة - شَوَائِه	فِرَائِي بَيْن	ع	غنڈہ
طَاجِن - طَوَائِه	فرم (دکپنی)	مُشَاعِب	غنڈہ گردی
مِشْرَاكَة (شِرَاكَات)		مُشَاعِيَه	غیر ملکی
		خَارِجِي	

اَرْضِيَه - بِلَاط	فِرَش	ف	فام
اَطَار (اَطْر)	فریم	اِسْتِمَارَة	فائرگز (گول چلانا)
تَلَاكِب (تَلَاكِبَات)	فِرَج	اُور نِيك	فائل
مُسْتَوْصَف	فری ڈپنری	طَلَقَه	فائل
مِجَانِي	فرسٹ ایڈ	مِلَقَه اور اِن	فائل
اِسْحَاف اَوَّلِي	فِرَاك	(مِلَقَات)	فائل
فُتَان	فرنیچر	اَلْمِتْحَامِي	
اَسْلَه عَفْش			
اَمْتَعَه - بَصَلَح			

تَضَاء	فیصلہ	فِرَاسِ	فروری
مَضَح	لیکٹری	جَوَّ	فضا
شَرَحٌ شَرِيطٌ	فیثہ		
بِنَانَةُ الْاطْلَاقِ	فیڈ (بچوں کی)	فِیْلِم	فلم
	(دردہ کی شئی)	بَحْمَةُ سِنَمَائِيَّة	فلم شمار
تَعَبٌ مَرْمُومٌ	فیس (مختانہ)	مَطْحَنَةٌ	فلور مل
نَمِيٌّ	فیٹن	سَرَا شِعْ	فلٹر
تَطْرِيْنٌ طَهْرَانِ		شَقَّةٌ	فلیٹ

ق

مَشْرَحَةٌ	قاش (بھانک)	الْمُفْتُونَ الْجَمِيْلَةُ	فنون لطیفہ
سُرْعِيٌّ	قانونی	صُورَةٌ	فوڈ
نَشْرِيٌّ	قانون سازی	مُصَوِّرٌ	فوڈ گرافر
إِسْطَاكٌ مَسْكٌ	قبض	عَسْكَرِيٌّ	فوجی
قَامَةٌ	قد	مَجْلِسٌ عَسْكَرِيٌّ	فوجی عدالت
جَزْأٌ	قصاب	مَحْكَمَةٌ عَسْكَرِيَّةٌ	
قَصْدِيٌّ	قلبی	مُعْتَشِكَةٌ	فوجی کیمپ
تَأْمِيْنًا	قومیا نا		
جَنَسِيَّةٌ	قومیت	قَائِلَةٌ كَشْفٌ	فہرست
		أَجْرَةٌ	فیس

کَتِفٌ	کانڈھا	مَمْرُومٌ	قیمہ
مَعْدَنٌ	کان	فَرَامَةٌ	قیمہ کرنے کی مشین
أَذُنٌ	کان	اسْتِغْرَاعٌ	تے (مٹی)
عَمُودٌ	کالم	تَهْوِجٌ	
مُسْتَمْرَاةٌ	کالونی	جَلْمٌ مَقْصُوعٌ	تینچی
فِلْفِلٌ	کالی مرچ	مِقْرَاضٌ	
عُرْفَةٌ تَجَارِيهٌ	کامرس چیمبر		
فَشْكَةٌ - بِنْدَلَةٌ	کارٹوس		
فَضْلَةٌ	کاماد (واؤ معکوس)		
بِنٌّ - قَهْرَةٌ	کافی	أَسْوَدٌ	کالا
مَعْقَى	کافی ہاؤس	مَوْمَرٌ	کانفرنس
يَطْلَقُهُ	کافی کارڈ	مَوْمَرٌ صُحْفِيٌّ	پریس کانفرنس
كَلْبِيَّةٌ	کالچ	وَرَقٌ - وَرَقَةٌ	کافڈ
تَفْصِيلُ كَلْبِيَّةٍ دِكْحِيَّةٍ		بَرْنَمَهُ وَرَقٌ	کافڈ کارڈ
عنوان "تعلیم"		اِصْرَاقُ الْيَتِيمِ	کافڈز نامزدگی
طُورُ الْيَتِيمِ	کار	بِنٌّ	کافی
بِرُونز	کانسی	دَفْتَرٌ - كَرَّاسَةٌ	کاپی
		صُورَةٌ	کاپی (نقل)
حَمَلَةٌ	کبوتر	مَضْمُوعٌ - فِرَاقَةٌ	کارخانہ

مَرَسْمُ جَبْرِكَ	کشم دیوئی	مَتٰی ؟	کب
مُصَارَعَه	کشتی	کَم ؟	کتفا
سَفِينَه	کشتی	کَدَبِي	کتاب فروش
تَجَدُّف	کشتی رانی	تَقْمِيْلَه	کلینگ
قَطْرِيْن	کشیده کاری	قَمَاش - اَقْمَشَه	کپڑا
مَرَبِيْب	کشش		
<hr/>			
آمَس	کل دگدرا ہوا	قَرَع	کد
خَدَا	کل دانے والا	عَقْد	کرایہ نامہ
دَبُوْس	کلپ	اَجْرَة (اَجْرِيْن)	کرایہ
کَلْسِيُوْم	کلاشیم	کِرَا	کرایہ مرچنٹ
مِعْضَمُ ذِرَاع	کلائی	بَدَال	کرفیو
صَفَت	کلاس (درجہ)	عَطْمُ الْجَمُوْل	کرنسی
تَقَاْفَة	کلچر	عَمَلَه	کزن
نَدَوَه	کلپ	عَمِيْد	کڑوا
عِيَادَه طَبِيْبِيَه	کلینک	مَرَا	
کَاتِب	کلرک	مَرَاكِبُ جَبْرِكَ	کشم سپر غنڈنٹ
		جَبْرِكَ	کشم ہاوس
		(جَمَاعَاتِكَ)	

کُنْزِیَہ	کنڈیکر	قیادہ	کمان
صُنْعٌ	کنڈی	شِرْکَہ (شرکات)	کپنی (فرم)
تَنْکَہ	کنسٹر	صَفْحُ الحُرُوفِ	کپوز کرنا
قَنْصُ	کونسل	جَمْعُ الحُرُوفِ	کپونزم
قَنْصُلِیَہ	کونسلٹ	شِلْوَعِیَہ	کپونٹ
مُؤْتَمَرٌ جَمِیعٌ	کنوینشن	اِشْرَاقِیَہ مُتَطَرِّقَہ	کمر
تَحْدِیدٌ	کنٹرول کرنا	شِلْوَعِیَّ	کمرہ
		وَسَطٌ - خَصْرٌ	
شِرْکَہ	کوٹ	عَرْجَہ	
(تفصیل دیکھیں)		(دیکھیں زیر عنوان	
زیر عنوان "لباس")		"مکان اور فرنیچر")	
بِعَطْفِ	ادور کوٹ	(عمولہ متبادلہ	کیشن
قَحْمٌ	کوٹلہ	(قومیشیون	کیشن
مَنْ ؟	کون ؟	بَجْنَه (بجان)	سب کیشن
بِرَّ اِدَّتِیْکَ	کوٹر	بَجْنَه تَا یَکَہ	
خِزْبَالِہ	کوڈا کر کوٹ		
مَنْ بِلَہ	کوڈا گھر	شَاطِیُّ سَاہِلِ	کنارہ
		عَابِلَہ	کنبہ
سُعَالٌ	کھانسی	مِرَاقِبِ	کنٹرولر

کیشک	کیبن	چلد	کھال
وَحَل	کیچرہ	سَعَاد	کھاد
اللَّهَ الصَّوْمِي	کیمرہ	شَبَاك - نَافِذَه	کھڑکی (جہلی والی)
سَرطَان	کیکڑا	طَعَام	کھانا
كَعْك	کیک	عَدَاة	کھانا دوپہر
تَقْوِيَمُ السَّنَةِ	کیلنڈر	عِشَاءُ	شام
خَيْش	کینوس	مَائِدَةُ الطَّعَامِ	کھانے کی میز
أَجْنَائِي -	کیسٹ	رِيَاضِي	کھلاڑی
صَيْدِي		مَلَاهِي	کھیل کود
		مَلْعَب	کھیل کا میدان
		أَيْن؟	کہاں
		صَبَاب	کھر
		مِرْفَق	کہنی
		جُمُجْمَه	کھوپڑی
		قِشَاء	کھیرا

گ

بقرة	گلے	مَا؟	کیا
جَنَس	گاہر	اَلْاِسْئَلَه	کپسول
حَارِس جَنَاس	گارڈ	نَقِيْب	کیپٹن
دَلِيل سِرْ اِدْب	گائڈ		
عَمْرِيَه	گاری		
خُد	گال		
وَرَق مَقْوِي	گتا		

خِصَان	گودر	بِالْوَعْدِ	گودر گنجه پانگاه
سَلْعَةٌ	گفته	مَأْسُورَةٌ	
رَبِيدَةٌ سَلْمَانِ	گهی	(مَوَاسِرِ)	
مُنشور	گشتی مراسله	قَفَا	گردی
قَصَبٌ	گن	عُنُقٌ	گردن
نِزَاوِيهٌ - قَالَمُهْ -	گنیه	سَرَاخُدٌ	گرج
صَبْطٌ		حَرَائِرَةٌ	گرمی
نَهْمِيَّةٌ (نَهْمِيَّاتِ)	گلدان	مِخْلَافٌ	گردپوش
حَلَقٌ	گلا	مَهْيِيفٌ	گرم سیر
وَرَادَةٌ	گلاب	حَاكِيٌّ مُتَعَرِّفٌ	گرمی فون
قَصْرِیَّةٌ	گنلا	بُكُلُورِیْسِیْنِ	گرمی حیث
نَحْمٌ	گوشت	خَرَجٌ	
قَالَمُ الْحَابِ	گوشتوان	خَرَبَاءٌ	گرگت
قَرْنِیْطٌ	گرمی	ذُرَّاجَةٌ	گریذ
(حَرَبٌ)	گوریلا جنگ	سَلْحَةٌ مَلْعَبٌ	گراوند
الْجِصَابَاتُ			
إِطْلَاقٌ - طَلْقَةٌ	گولی چلنا	سَرَكُوبُ الْحَيْلِ	گودر سواری
سَرْمَاصَةٌ	گولی در تعلق کی	قَرُوسِيَّةٌ	گودر سواری کا مقابلہ

مَرْتَبَتُهُ - فَالْوَسْ	لالین	حَبِّ - حَبِيْه	گولی
سَبَلِكْ (اسلاک)	لاسن (تاریکی)	حَوْضُ الشُّعْنِ	گودی (مخدرکی)
قَدْ أَحَدَهُ دَلَلَةٌ	لاشُر	مَحْزَنٌ - مُشَوِّدٌ ع	گودام
مَكْتَبِه	لابریری	سَاعَاتِي	گھڑی ساز
عَسَّالَةٌ	لاندری	عَقْرِبُ السَّاعَةِ	گھڑی کی سوتی

مَلَابِسٌ - ثِيَابٌ	لباس	رُكْبَةٌ	گھٹنا
يَخْلَعُ	آٹاٹا	شُرْفَةٌ (شَرْفٌ)	گیلری
يَلْبَسُ	پہنا	جَانِبٌ (جانا اسی)	گیس
حَمَلَةٌ	پیشک	غَانَا	گیان
بِحَمْرِ شَتَاوِفِ		جَالُونٌ	گیند
		كِرَاهٌ	گیٹس
		جَمَالُهُ يَنْظُرُونَ	



أَدَبٌ	لُزْبِيْرٌ	[اَمْتِيَانُ - اِدْنُ - اِبْلَانَه - وَرُحْمَه]	لاسنس
بِتَدْوِيلِ مَرَاتِقِ	لُتُو		[مَجْمَعٌ - مَجْمَعَانُ مَكْتَبَةُ الصَّوْتِ]
وَلَدٌ	لُطَا		
مُتَّجِمٌ	لَعْنَةٌ		
ظَرْفٌ	لِفَافَةٌ		
حَطْبٌ	لُكْرِي		

حکم عمرتی	مارشل لاد	اِثْرِیْق	لوتا
اِخْتِصَاصِی	ماہر	حَدِید	لوتا
شِخَارَا	مارکر (نشان امتیاز)	حَدَاد	لوتار
سوق	مارکیٹ	مَوْج	ہر
سوق السَّمَك	مارکیٹ مچھلی	مَعْبُوثِی بَرَبِیْب	بلے پالک
مَکْرَس	مارج	مَوْحَلَات	یاقت (دلی)
مَمَّ (اُمَمَات)	مان	تَاخِر تَاخِر	لیٹ ہونا
خَال	ماموں	مُحْتَبَا	لیباریری
بُر تَقَال	مالٹا	(مُحْتَبَات)	
أَدَوَات	میٹریل	مَرَقَّة العَوَاق	لیبل
حَلَوَیَات	مٹھائیاں	لَمْبَه	لیمپ
نَزِیر جَمَازَة	مشکا	لِیْمَوْتَه	لیمون
تِشَال (تَمَاشِیل)	مجسمہ	قَوْم	لیسن
بَعْوَضَه - نَامُوسَه	مچھر	فُول	لویا
نَامُوسِیَه	مچھردانی		
سَنَك	مچھلی	کِبْرِیْت	ماچس
عَضَلَه	مچھلی (مَسَل)	نَمُودِج (نَمَازِج)	ماڈل

مَشْرِقُ الْاِقْطَی	مشرق بعید	وَجْهٌ مُّشْرِقٌ	محصول لائپورٹ
المَشْرِقُ الْاَدْوَسُط	مشرق وسطی	دِيَانَتُهُ	نذیب
مُشْتَكَاةٌ	مُشِيرٌ	اِحْصَاءُ النُّفُوسِ	مردم شماری
صَعْبٌ	مَشْكَلٌ	دَجَاجِلَةٌ	مُرْعَى
مُشْتَبَاةٌ	مَصْنُوعِيٌّ	قَبِيحٌ	مُرْعَى خَانَةٌ
عِيَادَةُ طَبِيئَةٍ	مَطْبٌ	دِيكٌ	مِرْفَاةٌ
مُشْتَوَصَفٌ	مَعَانَةٌ	حَمَالٌ	مَزْدَرٌ
فَحْصٌ	مَعَانٌ كَيْفٌ	اُجْرَةٌ	مَزْدَرِيٌّ
عَقْوًا	مَعَاهِدَةٌ	عَدَسٌ	مَسُورٌ
حِلْفٌ - قَبَاةٌ	مَعَارٌ	لَيْشَةٌ	مَسُورَةٌ
عَقْدٌ	مَعَارٌ	اَلَيْسَةُ	مِسٌّ
بِنَاءٌ	مَقْلَرٌ	اِسْمَالِيَّةٌ مِعْمَةٌ	مِشَنٌ (دَفْد)
بِقَاعٌ	مَقَالَةٌ	مُحْرَاكٌ - مَاشِيْنٌ	مِشِيْنٌ
اَطْرُوقَةٌ	(امتحان کے لئے)	رَا شَاشَةٌ	مِشِيْنٌ گَن
مُبَايَرَاةٌ	مَقَابَلَةٌ (مِشْج)	مُبَيْشٌ	مِشْرِيٌّ
		تَعَوُّتُهُ لَيْشَةٌ	مِشَنٌ (نَمَانِدُ وَدَفْد)
		المَشْرِقُ الْاَدْوِي	مَشْرِقٌ قَرِيْبٌ

فَمَّ	منہ	ذُرِّيَّةٌ	کئی
بُورَصَه	منڈی	ذُبَابٌ	کھسی
دَقِيقَه	منٹ	مَلَائِكُمْ	مکد باز
إِسْتِثْنَاءٌ	منگل	مَلَائِكُمْ	مکد بازی
مَحْتَوِيَاتٌ	مندجات	نَزْدَةٌ	کھن
سَنُونٌ	منجن	تَمَسَّاحٌ	گرچہ
مَشْرُوعٌ	منصوبہ	عَنْكَبُوتٌ	کدھی
نَاطِرٌ - مُدِيرٌ	منیجر		
حَوَالَه مَالِيَه	منی آرڈر	مَطْمَئِنَةٌ	مل (آٹے کا)
بِالْبَرِيدِ	منی آرڈر بھیجنے والا	مَأْمُورٌ	ملازم
مُجَوَّلٌ		زِيَارَةٌ	ملاقات
		دَعَاةٌ - بَلَدٌ	ملک
		أَمَالِئِيَه	میریا
أَسْمِينٌ	موٹا		
مُجَرَّكٌ	موٹر	صَعْوَةٌ	موٹا
	(مشین)	مُخْضَوِيَه	مہری
جَوَالَه	موٹر سائیکل	مُخْضَوِيَه	مہر
سَيَّارَه	موٹر کار	(اِسْأَلِيَن)	موسی
مَوْقِفٌ	موٹر گاڑھ	مُؤَمِّيَا	
حَافِلَه	موٹر بس		
سَيَّارَه كَبِيرَه			

بلدیہ	میونسپل کمیٹی	مُنْعَطَف	مورٹ
مجلس بلدی		مہرجان	موزنگا
ساحہ	میدان	صَبَاك	مولدر
مَلْعَب	میدان (کھیل)		
مِنْضَدہ - مَابَدہ	میز	کِتِف کَاہِل	موندھا
طاولہ		شَارِب	مونیچہ
ضَفْدَع	مینڈک	خَبْرَة	مہارت
دَسَخ	میلا کھیلا	خَاتَم	مہر
		مَحْتَم	مہر شدہ
		غَالِ	مہنگا
		عِلَادَاتُ الخَلَاء	مہنگائی الاؤنس
طَلْمَبہ اَبْلَاب	نالی پانی کی	خَلْو	میٹھا
بَلَاعہ، بِلَاوَعہ	نالی گندی	مَالُو	مسی (ماہ)
مَدِير - نَاظِر	ناظم	مِبَاہَاة	تیج (مقابلہ)
قَطُوں	ناشتہ	مِبَاہِد - مِبَاہِد	میجر
مَاتِي لِيَلِي	ناٹ کلب	عَدَاد - مِتْر	میٹر
مَسَاعِد	تاب	مَذْكِرَة - مَذْكِرَة	میمورنڈم
نَضْر	ناخن	مَحْتَف - دَامِر اللَانَام	میوزیم
سَرَاة	ناف		

استِغْلال	نفع اندوزی	آنف	ناک
خریطه (خراط)	نقشه	جَوْنِ هندی	ناریل
رَسْم (رَسْم)		کُتْرِی	ناشپاتی
رَسْمِ سَام	نقشه بنامه والا	نرچس	زرگس
بِرِباطِ الرِّقِیَّة	نکاتی	سِجَر	زرخ
مُرَاقِبِ المَشْرِفِ	نگران	قَالِمَةُ الاسْحَاسِ	زرخنامه
مُلاحِظ		حَاضِنَةُ مَمْنُونِه	زرس
بِنَحْ	نمک	عَمْرِیْسِه	زرسری
مَمْلُکَه	نمک دانی	وَضَعَه	نونه
مَحْرَضِ	نمک آش گاه	(وَصْفَات)	نشان امتیاز
مَبْعُوثِ مَمْنُونِ	نمکینه	سِحَاسِ	نشته
خَنْقِیَّة	نمک	مِشْرِط	نشریه
رَقْمِ بَمْرَه عَدَد	نمبر	اِذَاعَه	
قَدَاتِ الجَنبِ	نمونه	اِسْتِغْرَاضِ	نظر تالی
التَّهْلِبِ الرَّقْمِ		اِعْتِقَالِ	نظر بندی
نَمُودِجِ	نمونه	مُعْتَمَلِ	نظر بندی کا مقام
شَالِ عَیْنِیَّه		هَتَافِ	نقره

دهان	دارش	مذکره -	نوٹ بک
لا سلی	فائریس	مفکره جیب	نوٹ کرنسی
سند	فاو پپر	(وراق) النقد	نواسہ
صدیری	واسکٹ	سبتل (اسباط)	فوش
منظره	واٹر پروف	اخطار	زآبادی
خروج، عروج	واپسی	مستغیره	
مدالاسلک	واٹرنگ		
کرتا الطائرہ	والی بال	تبعہ (شرح)	نہر
کرتا الماء	فاٹربال	قناة (قنوات)	نہائی
		سندان	نیکر
بیلہ رسمیتہ	وردی	قمان	نیٹ (جال)
وراشہ	ورکشاپ	شیکہ	نیلا تھوٹقا
بریلضہ	ورزش	نہ سقاء	نیم سرکاری
مٹکھ	وظیفہ تعلیمی	شبه رسمی	نیلام
		مزاد	نیوی
اشتر احمہ	وقفہ	بکریہ	
محمای - محای	کیل		
شعر مستعاری	وگ		
	(صنوعی بال)		
		و	واشر
		جلبہ	

عَظْمَةٌ قَلْبِي فَتَى	پڑھی ہرن ہرنیا	ذَالِك صَوْت (أَصْوَات) مَصَوْت نَاجِيَةٌ تَارِشِيرَةٌ لَحَام لَحْم	وہ ووٹ ووٹر ویرہ ویلڈر ویلڈنگ
السَّبْت السَّبُوع أَيَّامِ السَّبُوعِ	ہفتہ (دن) ہفتہ ہفتہ کے دن		
مُشَجَّبٌ شَمَاعَةٌ مُسْتَعِجِلٌ طَارِيءٌ بِوَصْلِهِ سَفَجَةٌ تَرْقُوتَةٌ	ہلک ہنگامی ہنڈی ہنسی	إِلْوَانٌ مَخْلُوعٌ مَجْدُورٌ (بُهْمَالُ) حَكْمَةٌ (الْأَسْيَاتُ) الْفَيْلَادَةُ الْعُلْيَا أَلَّةٌ (التَّيْبَةُ) تَوَقَّفُ الْقَلْبِ يَدٌ فَيْلٌ سَاحَةٌ مِطْرَقَةٌ	بال کرہ ہانی کورٹ ہانی کمان ہارن ہارٹ فیل ہاتھ ہاتھی ہتھیلی ہتھوڑا
طَيَّارٌ طَيَّارَةٌ طَائِرَةٌ مِطَارٌ شَفَّةٌ (شَفَّتَان)	ہوا باز ہوائی جہاز ہوائی اڈہ ہونٹ		

مَقَرَّة	ہیڈ کوارٹر	خان (خلات)	ہوش
قَلَمُ الْإِدَارَةِ	ہیڈ آفس	مُتَدَقِّن - تَرَك	ہوش
ناظر المدسسه	ہیڈ اسٹر	مَطْعَم	(صرف کھانا کا)
		اِنْتِقَبِه	پریشیاں (تنبیہ)
ذِكْرِي - تَذْكَار	یادگار	كِرَاءَةُ الْيَدِ	ہینڈ پال
شَرْهَبَةٌ	یعنی	يَطْلُ	ہیرو
هَذَا - هَذِهِ	یہ	الْمَاسِ	ہیرا
أَرْوَبَا	یورپ		
جامعہ	یونیورسٹی	قَبْضَه	ہینڈل
دیگر تفصیلات کے لئے	یونیورسٹی	مَضْحَك	ہینڈ پیپ
(دیکھیں عنوان "تعلیم")		دَقَايِه مِدْفَاة	ہیڈ

آفتاب عالم پریس - لاہور


۱۱ - رجب ۱۳۹۸ - ۱۸ جولائی ۱۹۷۸ء

لکھنؤ پبلسٹری

۹۹... جے ماڈل ٹاؤن لاہور
17456



اسلامی ادب میں ایک گر انقدر اضافہ



اور

ہمارے فرائض


ہمارے حقوق

تصنیفِ لطیف

حافظ نذر احمد

پرنسپل شبلی کالج، لاہور

آج کے اقصائے عالم میں ”حقوق“ کے نام پر ایک مسل
کش مکش جاری ہے لیکن نہ کسی کو حقوق و فرائض کے باہمی
لازمی تعلق کا احساس ہے نہ حق کے مطالبہ سے پہلے فرض کی ادائیگی
کا خیال ہے۔ حدیہ ہے کہ اپنے حقوق کا صحیح علم بھی نہیں۔



اس کتاب میں



ایکاون (۱۵) سیاسی، سماجی، یعنی، خاندانی اور انسانی رشتوں کو
زیب عنوان بنا کر ہر ایک کے فرائض اور حقوق بیان کیے گئے ہیں۔

پڑاساز، ۲۳۶ صفحات، بہترین کھائی چھپائی، سفید کاغذ، سنہری جلد، ہدیہ صرف ۳۳/۰۰ روپیہ

پاک مسلم اکادمی

ایک مقصد شاعری ادارہ

پاک مسلم اکادمی
افضل مارکیٹ، بازار لاہور

اپنے موضوع پر
اماریت نبوی کا ایک منفرد مجموعہ

طَبِّ نَبَوِی



صحت، حفاظت، صحت، بیماری، اور بیماری کا فلسفہ، علاج اور پیشہ وصالہت نبوی،
آداب طعام، آنحضرت کی لغزش، اور قرآن و حدیث میں مذکورہ ذوالامراض اور غذائیں،
ادویہ سے متعلقہ مادیات نبوی اور کتب میں بیان کردہ کئی اور کئی ہیں

فہرست کتب اور اہم مطبوعات کا تعارف نامہ
خط لکھ کر حاصل کیجیے